

إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِكُمْ (الحديث)

جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مناظرہ باپڑوں میں شکست فاش کی وجہ سے  
میں نے کبھی کبھی ان کے اٹھانے کے  
انقضات کا رد میں

# سیدنا امیر معاویہ

اہل حق کی  
نظر میں

• فضائل از قرآن و حدیث

• اکابر اہلسنت کے نظریات

• مطاعن کا تحقیقی رد

علاء پیر سید محمد رفیق شاہ شہری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِیْنَ یَسُبُّوْنَ اَصْحَابِنَا فِقُولُوا الْعِنَةَ اللّٰهِ عَلٰی شَرِّكُمْ

جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔

مناظرہ مانچسٹر میں شکستِ فاش کے بعد منکرین کی طرف سے

اٹھائے گئے اعتراضات کا ردِ بلیغ

# پیامِ نبیؐ میرے معاویہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اہل حق کی نظر میں

■ فضائل از قرآن و حدیث

■ اکابر اہلسنت کے نظریات

■ مطامعن کا تحقیقی رد

علامہ سید محمد رفیع عثمانی

دارالعرفان

165/E سبزہ زار لاہور

طباعت کے حقوق سید محمد عبداللہ فلاح و سید محمد ازکی کے نام محفوظ ہیں

نام کتاب ----- سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حق کی نظر میں

مصنف ----- علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی

اشاعت ----- بار اول۔ ۲۱ جون ۲۰۰۰ء، تعداد ۳۰۰۰ (لندن اشاعت)

بار دوم۔ تعداد ۱۰۰۰ (پاکستان ایڈیشن)

بار سوم۔ دسمبر ۲۰۰۲ء، تعداد ۱۰۰۰ (پاکستان ایڈیشن)

بار چہارم۔ اگست ۲۰۰۶ء، تعداد ۲۰۰۰ (پاکستان ایڈیشن)

پروف ریڈنگ ----- مولانا شاہ محمد چشتی سیالوی (خوشنویس قصور)

کمپوزنگ و سیٹنگ ----- محمد فہیم رضا (علمی پبلشرز گنج بخش روڈ لاہور)

منے کے پتے ----- (دارالعرفان) پاکستان

1- 165/E سبزہ زار لاہور 042-7832360

2- مرکزی جامعہ فاطمیہ (اہلسنت و جماعت) بغداد ٹاؤن

واسونالہ، منڈی بہاؤ الدین فون: 0546-504766

3- مدرسۃ البنات جامعہ بھکھی شریف فون: 0546-585004

ENGLAND .....4

6-VICTOR TEERS

BRAD FORD9 BD 9 4RQ

01274-545934 07980-562941

website:www.haqchaaryaar.net

اویسی بک شال گوجرانوالہ فون: 0333-8173630

# اظہار حقیقت و حرفِ سیاسی

فرزندِ رسول، سردارِ جوانانِ جنت، خلیفہٴ راشد، سیدِ امت، مصلحِ مسلمین  
جانشینِ علی المرتضیٰ، راکبِ دوشِ مصطفیٰ



کے نام

جن کے موقف اور طرزِ عمل کی یہ کتاب وکیل ہے  
جو آپ کی روحانی توجہ سے مرتب ہوئی  
من کیستم کہ باتو دم دوستی ز من  
چندیں سگان کوئے تو یک کمتریں منم

کشتہٴ ولاءِ حسن

سید محمد نسرین مشدی

اسیر تحفظ ناموس رسالت کیمپ جیل لاہور

16-11-2000

## فہرست

صفحہ نمبر	مضامین کتاب	نمبر شمار
3	اظہار حقیقت و حرفِ سپاس	1
5	ابتدائیہ	2
15	تیسرے ایڈیشن کا ابتدائیہ	3
16	موسوی (مناقب)	4
18	گلہائے محبت	5
23	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح	6
25	مقام صحابہ رضی اللہ عنہم آیات قرآنیہ کی روشنی میں	7
45	احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام	8
50	احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام	9
55	تمام صحابہ کرام پر طعن کی ممانعت	10
58	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی نظر میں	11
63	سید امام ابوحنیفہ اور سیدنا ابو عبد اللہ الحسین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ	12
69	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تابعین کی نظر میں	13
71	اکابر اہلسنت کے نظریات	14
84	امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں	15
87	محدث اعظم علیہ الرحمۃ پاکستان کی تحقیق	16
88	شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمۃ کا مبارک فتویٰ	17
89	غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی علیہ الرحمۃ کا فتویٰ	18
89	حضرت مفتی احمد یار خاں نعیمی علیہ الرحمۃ کا فتویٰ	19
90	آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کا فتویٰ	20
94	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر مطاعن کا تحقیقی رد	21
94	وسواس الخناس	22
95	بیان العرفان	23
125	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دس فضائل	24

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## ابتدائیہ

جمعیت تبلیغ الاسلام بریڈ فورڈ برطانیہ کی دعوت پر احقر 20-6-99 کو  
مانچسٹر ایئر پورٹ پر اُترا۔ جمعیت کے عہدیدار و کارکنان استقبال کے لیے موجود  
تھے۔ احقر نے برطانیہ میں تین ماہ قیام کیا، اس دوران 80 کے قریب تبلیغی محافل اور  
کانفرنسز میں حاضری ہوئی۔

جمعیت تبلیغ الاسلام کا پورے بریڈ فورڈ میں مساجد، مدارس اور اسلامک سنٹرز  
کا وسیع حلقہ ہے۔ جس کا سلسلہ یورپ کے علاوہ بھی کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔  
عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت الحاج سید معروف حسین شاہ عارف نوشا ہی قادری مدظلہ  
جمعیت کے بانی ہیں جبکہ مولانا لیاقت حسین نوشا ہی جنرل سیکرٹری ہیں۔

برطانیہ کے اہل حق نے بے حد پیار دیا۔ احقر بھی علالت کے باوجود سنی  
بھائیوں کے احکامات کی تعمیل میں وسعت سے بڑھ کر کوشش کرتا رہا۔ راقم کو برطانیہ  
کے دورہ میں احساس ہوا کہ یہاں علماء اور عوام اہل سنت میں بہت محدود تعداد ایسے  
لوگوں کی بھی ہے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے ہٹ کر اپنی الگ  
سوچ رکھتے ہیں۔ اور باطل فرقوں کے زیر اثر تاریخی حوالوں پر اعتماد کرتے ہوئے اہل  
سنت سے اپنی اعتزالی فکر کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔

احقر کے نزدیک اہل سنت و جماعت اہل حق ہیں اور ان کا تعلق تعلیمات  
نبویہ ﷺ سے مسلسل اور سوا تر پلا آ رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد و اعمال

اصول و فروع میں طے شدہ ہیں۔ دورِ حاضر کے علماء کو ان عقائد پر انفرادی رائے مسلط کرنے یا اس کا پراپیگنڈہ کرنے کی بجائے اہل سنت و جماعت کے طے شدہ عقائد و اعمال کو اسلاف کے حوالہ سے وعظ و تقریر، تصنیف و تالیف اور تدریس و تحقیق کے ذریعہ پھیلانے کی پُر خلوص کوشش کرنی چاہیے۔

اسی اصول کے پیش نظر راقم الحروف نے اہل سنت و جماعت کے مسلمہ نظریات کو معتبر و معتمد کتب کے حوالہ سے اہل اسلام کے سامنے پیش کیا، اس کے نتیجہ میں مذہبِ بین کا یہی طبقہ غضبناک ہو گیا اور اہل سنت و جماعت کا تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عادل ہونے کے عقیدہ کا بیان، ان سے برداشت نہ ہوا اور احقر کو مناظرہ کا چیلنج دیدیا۔ احقر نے یہ چیلنج قبول کیا اور 12-9-99 کو طے شدہ پروگرام کے مطابق مانچسٹر شہر کی وکٹوریہ مسجد میں رات 9 بجے مع رفقاء پہنچ گیا۔ میرے ہمراہ علامہ صاحبزادہ محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب مہتمم صفتہ الاسلام، بریڈ فورڈ، مناظر اسلام حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب سیالکوٹی، مولانا حافظ نعمت علی چشتی بار گرانڈ اور مولانا حافظ جمیل احمد نوشاہی قادری بھی تھے۔

بارہ بجے رات تک انتظار کیا، فریقِ مخالف مسجد میں نہ آیا، رات 12:30 بجے اطلاع آئی کہ مناظرہ کرنا ہے تو ہمارے گھر آجائیں، بالآخر ہم فریقِ مخالف کے بسکونہ گھر میں چلے گئے اور ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کے بعد فریقِ مخالف کے مناظر صاحبزادہ سید محی الدین شاہ حویلیاں والے نے موضوعِ مناظرہ میں امیر المؤمنین صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنا جو مکروہ عقیدہ لکھ کر دیا

تھا، اس سے توبہ نامہ لکھ کر دے دیا اور سابقہ بڑے عقائد سے رجوع کرنے کا اعلان کیا فریق مخالف کی طرف سے توبہ اور رجوع کرنے کے اعلان کے بعد خاموشی اختیار کی گئی، کیونکہ مقصد تو احقاق حق تھا، جو کہ بجز اللہ تعالیٰ خوب حاصل ہو گیا۔ مگر مناظرہ کے چند ماہ بعد ایک بے نام و نشان پمفلٹ تقسیم کیا گیا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بے جا اعتراضات اٹھا کر گندی ذہنیت کا خوب مظاہرہ کیا گیا، پمفلٹ کی اشاعت کرنے والوں میں اخلاقی جرأت ہوتی تو مصنف و مرتب کا نام اور دارالاشاعت کا حوالہ ضرور دیتے، ایسے واہی و بے حیا معترض کی خرافات کا جواب ہماری ذمہ داری نہ تھی۔ مگر جمعیت تبلیغ الاسلام کے احباب نے اصرار کیا کہ اس پمفلٹ کا جواب ضرور لکھا جائے راقم الحروف نے احباب اہل سنت کی دلجوئی اور احقاق حق و ابطال باطل کی نیت سے اس پمفلٹ کا جواب لکھا ہے۔

☆ قارئین کی سہولت کے لیے مباحث کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

باب اول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقام، قرآن مجید کی آیات اور

احادیث مبارکہ سے۔

باب دوم: حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں

اکابر اہل سنت کے نظریات

باب سوم: مخالفین کے مطاعن کا تحقیقی رد

کتاب کے اصل مباحث کے آغاز سے قبل اہل سنت و جماعت بھائیوں سے ایک خصوصی التماس ہے کہ شیعہ اور وہابی فرقہ سے ملتے جلتے عقیدے رکھنے والے



نام نہاد سنی مولویوں سے قطعی طور پر الگ رہیں اور کلیدِ درجنت مذہبِ حق اہل سنت و جماعت ہاتھ میں رکھتے ہوئے جہنمیوں کے داویلا کو ہرگز خاطر میں نہ لائیں۔ اہل سنت ہی اہل حق ہیں، اہل سنت ہی اہل نجات ہیں، اہل سنت ہی طائفہ منصورہ ہیں، اہل سنت ہی سوادِ اعظم ہیں اور اہل سنت ہی اولیاء اللہ کی جماعت ہیں۔

سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً  
فَقَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي وَ فِي رِوَايَةٍ وَ هِيَ  
الْجَمَاعَةُ۔ 1، 2

ترجمہ:- ”میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی وہ سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنے والا ہوگا۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے، یعنی اس روایت میں زیادہ وضاحت کے ساتھ اس طرح بتایا گیا ہے۔

أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً النَّاجِيَةَ  
مِنْهَا وَاحِدَةٌ وَ الْبَاقُونَ هَلِكِي قِيلَ وَ مَنْ النَّاجِيَةُ قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ،

1۔ (ترمذی عن ابی ہریرہ،)

2۔ (صحيح المستدرک على الصحيحين)

قِيلَ وَمَا السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ، قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي... 1  
ترجمہ:- ”حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے صرف ایک گروہ نجات پانے والا ہوگا اور باقی ہلاک ہو جائیں گے، عرض کیا گیا، نجات پانے والا گروہ وہ کونسا ہوگا؟ فرمایا: اہل سنت و جماعت۔ عرض کیا گیا سنت و جماعت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: جس پر میں اس وقت ہوں اور میرے صحابہ کی جماعت۔“

ایک اور روایت میں ہے:

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا قَالَ النَّاجِي مِنْهَا وَاحِدَةً، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَقِيلَ وَمَنْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي... 2

ترجمہ:- ”نبی اکرم ﷺ نے جب یہ فرمایا کہ ان تہتر فرقوں میں سے صرف ایک نجات پانے والا ہوگا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ وہ نجات پانے والا ایک کون ہے؟ فرمایا: اہل سنت و جماعت، تو عرض کیا گیا، اہل سنت و جماعت کون ہیں؟ فرمایا: جو طریقہ نبوی ﷺ اور جماعت صحابہ کے پیروکار ہیں۔“

افتراق امت کے متعلق اس حدیث پاک کے تحت محدث کبیر حضرت بلا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

1- (الملل والنحل، ج ۱، طبع قاہرہ)

2- (احیاء العلوم امام غزالی - ج ۳، طبع مصر)

لَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَنَّهِمُ الْإِنَانِ وَ

سَبْعُونَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ۔ 1

ترجمہ:- ”اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و

جماعت ہی ہے۔ بہتر (۷۲) فرقے سب کے سب دوزخ میں جائیں گے اور فرقہ

ناجیہ اہل سنت و جماعت ہی ہے۔“

غوث الثقلین حضرت امام سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:-

وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ 2

ترجمہ:- ”نجات پانے والا فرقہ صرف اہل سنت و جماعت ہی ہے۔“

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

طَرِيقُ النُّجَاةِ مُتَابِعَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ،

وَفِي الْأَصُولِ، وَفِي الْفُرُوعِ فَإِنَّهُمْ فِرْقَةٌ نَّاجِيَةٌ وَمَا سِوَاهُمْ مِّنَ الْفِرَقِ فَهُمْ

فِي مَعْرِضِ الزَّوَالِ وَشَرَفِ الْهَلِكِ عَلِمَهُ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَوْلَمَ يَعْلَمُ أَمَّا فِي الْعَقْدِ

فَيَعْلَمُهُ كُلُّ أَحَدٍ وَلَا يَنْفَعُ۔ 3

ترجمہ:- ”اقوال افعال اور اصول و فروع میں اہل سنت کی پیروی کرنا ہی راہ نجات ہے

کیونکہ اہل سنت و جماعت ہی فرقہ ناجیہ ہے اور ان کے سوا دوسرے فرقے سب

زوال پذیر اور ہلاکت کے کنارے پر ہیں۔ آج کوئی اس حقیقت کو جانے، یا نہ جانے

1۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ: ج ۸، ص ۴۸) 2 (غنیۃ الطالبین: ج ۸، ص ۸۵)

3 (مکتوبات امام ربانی: ج 1، ص 86، مکتوبات 69، طبع لاہور)

مگر کل قیامت کے دن ہر ایک اس حقیقت کو جان لے گا لیکن اس وقت جاننا سود مند نہ ہوگا۔“

حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَفِرْقَةٌ نَاجِيَةٌ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ - 1

ترجمہ:- ”فرقہ ناجیہ اہل سنت وجماعت ہی ہیں۔“

شیعہ فرقہ کی معتبر کتاب احتجاج طبرسی میں ہے: حضرت امیر المؤمنین علی

المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اہل جماعۃ، اہل فرقہ، اہل

البدعہ اور اہل سنت کون لوگ ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا:

وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِمَا سَنَّهَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنْ قَلُّوا

وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدْعَةِ فَالْمُخَالَفُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَالْعَامِلُونَ بِرَأْيِهِمْ

وَأَهْوَاهُمْ وَإِنْ كَثُرُوا - 2

ترجمہ:- ”اہل سنت وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے طریقے (حکم) اور رسول اللہ ﷺ کی سنت

پر مضبوطی سے عمل پیرا ہیں اگرچہ وہ تھوڑے ہوں اور اہل بدعت وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ

کے حکم، اس کی کتاب، اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرنے والے اور اپنی آراء اور

خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اگرچہ وہ زیادہ ہوں۔“

شیعہ مذہب کی معتبر کتاب جامع الاخبار میں ایک طویل حدیث قدسی مرقوم

1- (اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ: ج 1 ص 86)

2- (1- احتجاج طبرسی: 92 طبع تہران)

ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اقدس ﷺ کو اہل سنت و جماعت کے لیے یہ خوشخبری سنائی:-

لَيْسَ عَلَيَّ مِنْ مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَلَا  
 شِدَّةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَحَبَّ الْجَمَاعَةَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ  
 أَجْمَعُونَ۔ 1

ترجمہ:- اے محمد ﷺ جو شخص مذہب اہل سنت و جماعت پر مرے گا اسے نہ قبر میں عذاب ہوگا اور نہ اس پر روز قیامت کی سختی ہوگی، جو اس جماعت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اور تمام فرشتے اس سے محبت کریں گے۔“

احادیث مبارکہ، اکابر اولیاء کرام کے فرامین اور شیعہ عالیہ کی کتابوں کی تصریحات سے روز روشن سے زیادہ واضح ہے کہ اہل سنت و جماعت اہل حق ہیں، اہل نجات ہیں، سواد اعظم ہیں، افتراق و انتشار کے اس شور و شر میں صراط مستقیم پر گامزن، قافلہ عشق و محبت اور جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔

تو سنی بھائیو! اہل سنت کوئی حادثاتی جماعت نہیں، وقتی تحریک نہیں، سیاسی احتجاجی تحریک کے زیر اثر وجود میں نہیں آئی، بلکہ خیر القرون سے لے کر آج تک ایسی مستقل اور باوقار جماعت ہے جو عقائد و اعمال میں حسن اعتدال کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید، محمد رسول اللہ ﷺ کی عظمت، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان

کی طہارت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اخلاص اور اولیاء کاملین کے مقام کی حقیقی محافظ و پاسبان ہے مگر دورِ حاضر کے اہل سنت و جماعت کی مذہبی کمزوری اور دین سے لاتعلقی کی بنا پر، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے گستاخ نہ صرف خود کو سنی کہلاتے ہیں بلکہ سنیوں کے پیر، مولوی اور ائمہ مساجد بنے ہوئے ہیں، ورنہ زمانہ سلف میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر طعن کرنے والا گستاخ اور غالی شیعہ سمجھا جاتا تھا۔

علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسماء الرجال کی مشہور کتاب میزان الاعتدال، ج 1 ص 6 پر لکھتے ہیں۔

”زمانہ سلف میں غالی شیعہ وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام پر نکتہ چینی اور ان کی بد گوئی کرتا تھا۔“

اہل سنت و جماعت عوام بالخصوص مساجد کی انتظامیہ کے لیے دعوتِ فکر ہے کہ وہ اپنی مساجد میں صحابہ کرام کے گستاخ مولویوں کو ہرگز نہ رکھیں، اس قسم کے نام نہاد پیروں اور ڈرانے باز شہانوں کے دامِ تزویر سے بھی بچیں اور اپنے عقیدہ کی حفاظت کریں۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی رکھنے والے تین گروہ ہیں:-

پہلا گروہ:- رافضی شیعہ ان کے بکواسات کے بارے کوئی تعجب نہیں کرنا

چاہیے۔ کیونکہ وہ تو السابقون الاولون کے بارے میں بھی بڑا اعتقاد رکھتے ہیں حالانکہ پہلی امتوں میں بھی ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔

دوسرا گروہ:- جاہل صوفیوں اور نام نہاد سیدوں کا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدگوئی کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تکرار سمجھتے ہیں، یہ لوگ خود کو سنی کہتے ہیں مگر حقیقت میں نہ صرف اس مسئلہ میں بلکہ بہت سے اصول و فروع میں اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں اور شیعہ فرقوں میں داخل ہیں۔

تیسرا گروہ:- یہ گروہ اہل ظاہر کا ہے، بعض روایات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مطاعن ان کی نظر سے گزرتے ہیں اور ظاہریت کی وجہ سے مطاعن پر مبنی روایات کی تاویل تک ان کے ذہن کی رسائی نہیں ہوتی۔

ان گروہوں میں سب سے ضرر رساں اور خطرناک گروہ دوسرا ہے، پھر تیسرا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اہل اسلام کے لیے دینی فائدہ کا ذریعہ بنائے۔

خادم اہل سنت و جماعت

سید محمد عرفان مشہدی موسوی

بانی مرکزی جامعہ فاطمیہ بغداد ٹاؤن منڈی بہا الدین

فون:- 0546-504766

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## تیسرے ایڈیشن کا ابتدائیہ

”سیدنا امیر معاویہ اہل حق کی نظر میں“ اب تک چار ہزار کی تعداد میں بطبع ہو کر تقسیم ہو چکی ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں سے تحسین کے خطوط موصول ہوئے ہیں، آزاد کشمیر اور برطانیہ کے احباب نے بھی کتاب کو سراہا۔ تیسری مرتبہ کتاب طباعت کے لیے جا رہی ہے سو چنانچہ لوگوں کی خوراک کا بھی کچھ انتظام ہو جائے جنہوں نے اس کتاب کا جواب لکھنے کی زحمت اٹھائی۔


مجھے دو کتابیں ایسے عنوانات سے ملی ہیں جن میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتابیں ”سیدنا امیر معاویہ اہل حق کی نظر میں“ کا جواب ہیں۔ دونوں کتابیں اول سے آخر تک میری کتاب کی مباحث سے مس بھی نہیں کرتیں البتہ مصنفین کی فطرتیں مغالطات کی کثرت کی وجہ سے خوب پہچانی جاتی ہیں۔ ”کل انا یترشح بما فیہ“ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔

دونوں کتابیں ترتیب دینے والوں کے ممدوح سید محمود شاہ ہزاروی کے سگے نواسے پیر سید محمد عارف شاہ ترمذی کی یہ وضاحت شاید ان کے دلوں کے روگ کا کچھ علاج اور عدالت و عظمت اصحاب رسول کے عقیدہ کی اہمیت کا احساس دلا سکے:-

”سید محمود شاہ کاظمی المعروف محدث ہزاروی میرے سگے نانا ہیں پہلے پہل بہت کٹر سنی عالم دین تھے بعد ازاں ان کے نظریات میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوئمن آجانے کے بعد انہیں خارج از اہل سنت و جماعت



قرار دیا گیا، ہم تمام خاندان والوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ الحمد للہ! ہمارا عقیدہ مذہب حق اہل سنت و جماعت حنفی (بریلوی) ہے۔ "فقط ناچیز سید محمد عارف شاہ ترمذی دونوں کتابوں میں احقر کو ذاتی طور پر غیض و غضب کا نشانہ بنایا گیا ہے جو اب میں احقر اپنا تزکیہ اس لیے نہیں پیش کرنا چاہتا کہ جن نصیب کے ماروں کے معیار قبول پر نبی آخر الزماں علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کے شاہکار صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی پورے نہ اتریں، مجھ جیسے کا وہاں ذکر ہی کیا، البتہ میرے ریکارڈ میں اشعار و افکار خضر بنام ظفر موجود ہیں جو اتفاق سے انہیں امور کا احاطہ کرتے ہیں جن کا تذکرہ مخالفین نے کیا ہے اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ شاعر میرے دیرینہ رفیق جمیم تو ہیں ہی، خیر سے مخالفین کے ہدایتکار بھی ہیں ان کا کلام بلا تبصرہ ہدیہ معاندین ہے، شاید ان کو کوئی بہتر راستہ دکھاسکے۔"



## موسوی

صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان موسوی شیخ الحدیث جامعہ ہمنکھی شریف کی

خدمت میں سالانہ عرس غوثِ اعظم کے موقع پر (23 اکتوبر 1994ء بروز اتوار)

اللہ اللہ جوشِ حیدر تو نے پایا موسوی  
 ہے زدائے مصطفیٰ کا تجھ پہ سایہ موسوی  
 مرحبا الجامعۃ الفاطمیہ مرحبا  
 تو نے نوری علم کا پودا لگا یا موسوی  
 ہے تیرا بابا علی دروازہ شہرِ علوم  
 جب ہی تو علمی چمن، تو نے سجایا موسوی  
 دیکھ کر تجھ کو ہوا ہے شادمان ہر فاطمی  
 تیری لے سے دل کا آنگن جگمگایا موسوی  
 دشمنِ دین کے رخ بد پر پسینہ آگیا  
 تیغِ بڑاں لے کے جب میدان میں آیا موسوی  
 کینہ پرور کم نظر سارے ہراساں ہو گئے  
 دیکھ کر تیری وجاہت، تیرا پایا موسوی

منکر شانِ نبی اور کافرِ شانِ بتوں  
دیکھ کر چہرہ تیرا ہے تھر تھرایا موسوی  
تیری ہیبت دیکھ کر ہیں گر پڑے لاتوں کے بھوت  
ہر سرِ مغرور کو تو نے جھکایا موسوی  
کون کہتا ہے ترے خون میں نہیں رنگِ وفا  
دوستی کا تو نے ہر وعدہ نبھایا موسوی  
پیرِ بغدادی کا تو بھی ہے خلیفہٴ حجاز  
شہ جلال الدین ثانی بن کے آیا موسوی  
قادری اجلالِ رنگِ نقشبندی بھی ملا  
چشتیوں کا ذوق بھی تو نے ہے پایا موسوی  
ہے ظفرِ اقبال بھی تیری محبت کا اسیر  
شوق میں آکر تجھے نغمہ سنایا موسوی

## گلہائے محبت

نازشِ اہل سنت

علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی موسوی کی جناب میں

چمن کو پھول کو رنگِ ولا دیا تو نے  
 نبی کے ذکر سے ہر دل میں روشنی پہنچی  
 شکوہ حضرت شبیر ، نازشِ حیدر  
 تو فاطمی ہے، تیرا درسِ فاطمیہ ہے  
 ہے تو بھی مسندِ سید جلال کا وارث  
 قسمِ خدا کی، بڑوں سے بڑا ہے، بڑھ کر ہے  
 جو تجھ کو کہتے ہیں چھوٹا بہت ہی چھوٹے ہیں  
 ہے غوثِ پاک کا فیضان تیرے سینے میں  
 خطیبِ آلِ محمد رضا کا نیزہ تو  
 وہابیوں کے جہانوں میں زلزلہ آیا  
 تیرے جمال میں تیرے جلال کی رنگت  
 خطیب و حافظ و عالم مناظرِ اسلام  
 ملی ہے تجھ کو بھی عرفاں کی ظفرِ دولت  
 ہے بلبلوں کو بھی ذوقِ وفا دیا تو نے  
 محبتوں کا دیا بھی جلا دیا تو نے  
 شجاعتوں کے جہان کو، بسا دیا تو نے  
 پیامِ حضرت زہراء سنا دیا تو نے  
 کہ جس کے علم کا گلشن سجا دیا تو نے  
 بڑے بڑوں کا کلیجہ، ہلا دیا تو نے  
 تمام چھوٹوں سے دامن چھڑا دیا تو نے  
 کہ جس کے آگے ہے دامن بچھا دیا تو نے  
 منافقوں کی نوا کو مٹا دیا تو نے  
 سرِ غرور کو تن سے اڑا دیا تو نے  
 جھبی تو نجد کو نیچا دکھا دیا تو نے  
 کہ شہرِ شہر پہ سکھ بٹھا دیا تو نے  
 سرور و شوق کا اک رنگ جما دیا تو نے

الجامعہ الفاطمیہ کی جدید عمارت کے افتتاح اور سالانہ عرس مبارک سیدنا  
عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ منعقدہ ۷ مارچ بروز سوموار ۱۹۹۷ء کے موقع پر پیش کئے  
گئے اشعار:


یہ خونِ شبیر کا اثر ہے کہ تنہا ظلمت کی وادیوں میں  
علی کا بیٹا خطیب عرفانِ رضا کے نغمے بنا رہا ہے (خضر)  
سزاوارِ مدح، موردِ قدح، ہوا جرم فقط تاجدارِ بطحا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے  
پیارے یاروں، جاں نثاروں کی عزت و ناموس کے تحفظ کا پرچم بلند کرتا ہے، ہاں میں  
اس کا اقراری مجرم ہوں۔

ناموسِ جان و دل کی بازی لگی تھی ورنہ  
آساں نہ تھی کچھ ایسی راہِ وفا شعاروں

احقر و لاشی

سید محمد عرفان مشہدی موسوی

دارالعرفان 165/E سبزہ زار لاہور



# اہل سنت کے ماتھے کا جھومر اور علمائے اہل سنت کی زینت

مکرمی و محترمی جناب عزب مآب

مولانا صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ

مزانج اقدس! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں ایک کتاب ”اہل نظر کی نظر میں“ کے عنوان پر لکھی گئی ہے اور اس تقریظ کو میری طرف منسوب کیا گیا۔ حالانکہ ایسی کتاب جو فتنہ و فساد کا باعث بنے اور کسی شخصیت کے عیب تراشے اس کی تقریظ بندہ ناچیز لکھنے سے یکسر معذور ہے۔ اور ناچیز کا دامن اس کی تقریظ سے پاک اور مبرا ہے پھر آپ جیسی شخصیت جو اہلسنت والجماعت کا بہت بڑا سرمایہ ہیں (استغفر اللہ العیاذ باللہ) ناچیز کبھی بھی اس قسم کی جرأت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔

حضور آپ کی دل آزاری ہونے سے بہت پریشان ہوں۔ اور تہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ ہمیں تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے علماء اہلسنت کی قدر اور ان کا ادب و احترام سکھایا ہے۔ ہمارے دلوں کو آپ نے اخوت و ہم آہنگی اور خلوص و محبت کے نور سے منور فرمایا ہے۔ ہمارا مرکز اس قسم کی ناز زیا حرکت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ کسی کی ذات پر تنقید کرنا تو ہماری تربیت میں ہی شامل نہیں البتہ مولوی صفدر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ سے اپنا تعارف


کروا سکتا ہوں؟ تو میں نے ہاں میں جواب دیا۔

مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اس قسم کی اخلاق و تہذیب سے گری ہوئی کتاب میں میری تقریظ دینا چاہتا ہے۔ اگر مجھے اس کتاب کے شائع ہونے سے پہلے معلوم ہو جاتا تعارف تو ذرکنار یہ کتاب بھی شائع ہونے سے روکتا۔ صد افسوس کہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب یہ کتاب منظر عام پر آگئی۔ صدر صاحب نے بہت بڑی میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کہ ایک ایسی شخصیت جو اہلسنت و الجماعت کے ماتھے کا جھومر اور علماء اہلسنت کی زینت ہے اس کے خلاف میرا نام استعمال کر کے مجھے رسوا کیا۔ انشاء اللہ ضیاء حرم کے آئندہ شمارہ میں اس کی تردید کا اشتہار شائع ہوگا۔ تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اہلسنت و الجماعت کے تمام علماء کو ذہنی فکری اور عملی ہم آہنگی عطا فرمائے اور ہر قسم کی تفرقہ بازی سے محفوظ رکھے!

والسلام و عا گو:

دلاور حسین قادری

(اصلی خط محفوظ ہے)



## حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح


حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان اموی قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخت نبوی سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئے۔ واقذی نے بیان کیا ہے کہ وہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو مخفی رکھا اور فتح مکہ کے ساتھ ہی اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ خالد بن معدان نے بیان کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ طویل القامت تھے، رنگ سفید تھا، نبی کریم ﷺ کے صحابی اور آپ کے کاتب تھے۔

ابو نعیم نے کہا حضرت معاویہ حلیم الطبع، حساب دان اور کاتب تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس منصب پر تاحیات برقرار رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، ان سے جنگ کی اور ملک شام کے مستقل فرماں روا ہو گئے پھر مصر کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا بیس سال تک شام کے گورنر رہے محمد بن اسحاق نے اس پر اعتماد کیا ہے لیکن یہ تغلیبا ہے، کیونکہ حضرت حسن سے صلح کے بعد انیس سال سے کچھ کم عرصہ گزرا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بائیس رجب ساٹھ (۶۰) ہجری میں انتقال ہو گیا۔

علامہ ابن اثیر جزری لکھتے ہیں: ایک قول یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پندرہ (۱۵) رجب ساٹھ (۶۰) ہجری میں ہوا اور ایک قول بائیس (۲۲) رجب کا ہے، اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، بیاسی (۸۲) سال تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس (۶۰) سال کی عمر میں



کو اس قمیص میں دفن کیا جائے جو رسول اللہ ﷺ نے انہیں پہنائی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ ﷺ کے ناخنوں کے تراشے تھے آپ نے وصیت کی تھی کہ غسل اور کفن کے بعد ناخنوں کے وہ تراشے میرے منہ اور آنکھوں پر رکھ دیے جائیں اور اس کے بعد مجھے ارحم الرحمین کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت یزید موجود نہیں تھا۔ ضحاک نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 1



1 (الاصابہ: ج 3 ص 434۔ اسد الغابہ: ج 4، ص 387)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقام صحابہ کرام علیہم الرضوان

## آیات قرآنیہ کی روشنی میں

اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق میں سب سے عظیم مخلوق نبی اور رسول ہیں۔ جن کی طرف اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی آتی رہی اور ان میں سے رسل عظام کو کتاب اور مستقل شریعت عطا کی گئی ہے۔ نبوت و رسالت کے بعد امتوں میں صحابیت کا شرف عظیم تر ہے۔ سید الاولین و آخرین محمد رسول اللہ ﷺ کا صحابی تمام انبیاء و رسل کے صحابہ سے افضل ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام انبیاء و رسل سے افضل ہیں۔

اصطلاح شریعت میں صحابی کی تعریف اس طرح ہے:-

مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَهُوَ صَحَابِيٌّ۔<sup>1</sup>  
 ”صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کے ساتھ نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام

سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اسلام پر اس کی موت ہوئی۔“

فخر الدین شیبلی نے صحابی کی تعریف اس طرح نقل کی ہے:-

كُلُّ مُؤْمِنٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ فَهُوَ صَحَابِيٌّ۔<sup>2</sup>

1 (الاصابه فی معرفۃ الصحابہ: از شمس الدین احمد عسقلانی، ص ۷، طبع بیروت

2 (مجمع البحرین: ص ۹۹)

”صحابی وہ مؤمن ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا۔“

حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی زیارت و ملاقات اتنا بڑا شرف ہے کہ ہر صحابی کو جہنم کی آگ سے آزادی کی سند حاصل ہو چکی ہے۔

ارشاد محبوبِ دو عالم ﷺ ہے:-

وَعَنْ جَابِرٍ مَّرْفُوعًا لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَأَى أَوْ رَأَى مِنْ رَأَى - 1

”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جس مسلمان نے مجھے دیکھا، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔“

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسِيرٍ مَرْفُوعًا طُوبَى لِمَنْ رَأَى وَأَمَّنَ بِي وَطُوبَى

لِمَنْ رَأَى مِنْ رَأَى وَأَمَّنَ بِي، طُوبَى لَهُمْ وَحَسَنَ مَا بِي - 2

ترجمہ:- ”حضرت عبداللہ بن یسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور

مبارک ہو اس شخص کو جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، ان کو

مبارک ہے اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت وہ خوش بخت جماعت ہے جسے خیر

القروان نصیب ہوا۔ ہدایت ملی، ایمان ملا، حضور نبی اکرم ﷺ کی زیارت کا شرف

1۔ (ترمذی و نسائی)

2۔ (الطبرانی والحاکم)

ملا، زبان رسالت سے قرأتِ قرآن سنی، وحی کے اولین مخاطب بنے، سید العالمین علیہ الصلوٰۃ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امارت میں حج کیا، حضور اکرم ﷺ کی قیادت میں جہاد کیا، سرور کونین ﷺ سے دین سیکھا، حضور اقدس ﷺ نے انہیں قرآن سکھایا، کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تزکیہ باطن کیا، تقویٰ و پرہیزگاری اور اخلاص کی اس معراج پر پہنچایا کہ خالق کائنات جل و علانے اعلان فرمایا:-

☆ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ 1

ترجمہ:- ”صحابہ کرام وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔“

☆ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ 2

”اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور وہی اس کے زیادہ سزاوار اور اہل تھے۔“

☆ وَلَٰكِن اللّٰهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ

الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ 3

”لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں

آراستہ کر دیا ہے، کفر، حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، ایسے ہی لوگ درست

راہ پر ہیں۔“

1۔ (القرآن: پ ۲۶، سورة الحجرات)

2۔ (القرآن: پ ۲۶، سورة الفتح)

3۔ (القرآن: پ ۲۶، سورة الحجرات، آية ۷)

☆ یَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ - م 1

”جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا، نبی اور ان کے ساتھی ایمان والوں کو، ان کا

نوران کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہوگا۔“

☆ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ - م 2

”اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔“

مذکورہ پانچ آیات محکمات میں اللہ جل شانہ نے اصحاب محمد ﷺ کی تعریف

و توصیف فرمائی ہے۔ سورۃ حجرات کی آیت میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہم

الرضوان کے امتحان کا ذکر فرمایا ہے اور یہ تقویٰ کا امتحان ہوگا، تقویٰ دل کا فعل ہے اور

دلوں کے بھید اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اس لیے یہ امتحان اللہ جل شانہ ہی لے سکتا

ہے، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت حضور اقدس ﷺ کے تلامذہ کی جماعت

ہے۔ آپ نے اپنے طلبہ کو تلاوت اور تعلیم کتاب و حکمت کے درجات سے گزار کر

ترکیہ کے اعلیٰ درجات تک پہنچایا۔ حضور اقدس ﷺ نے سوائے ذات کبریٰ کے کسی

سے کچھ نہیں سیکھا تو آپ کے تلامذہ کے امتحان کا حق دار بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی

ہے، اس لیے اللہ جل شانہ ہی نے امتحان لیا لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی درجات

کے امتحانات کے لیے جو امتحانی بورڈ تشکیل دیئے گئے ہیں، ان کے امتحانات اور ان

1۔ (القرآن: پ 28، سورۃ تحریم، آیت 7)

2۔ (القرآن: پ 28، سورۃ المحادلہ، آیت 26)

کے نتائج میں جاری کی گئی سند کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جاتا ہے، مگر اللہ جل شانہ نے جس مقدس جماعت کا خود امتحان لیا، دل کا امتحان، تقویٰ و اخلاص کا امتحان لیا اور اس کے نتیجہ کا اعلان بھی فرمایا۔ ”لَهُمْ مَغْفِرَةٌ“ سبھی صحابہ بخش دیئے گئے ”وَأَجْرٌ عَظِيمٌ“ سب صحابہ اول درجہ میں کامیاب ہوئے۔ اس کے باوجود کچھ بد باطن آج تک اس رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں شک کر کے اپنی اصل مشکوک بنانے کا سامان کر رہے ہیں۔ پارہ ۲۶، سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ”كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ“ کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دلوں میں لازم کرنے کا حکم دیا۔

اہل علم سے مخفی نہیں کہ قرآن مجید میں تمام عبادات کا حاصل تقویٰ قرار دیا گیا ہے اور تقویٰ کے ذریعہ ہی بندہ اللہ جل شانہ کی محبوبیت و ولایت کی منزل حاصل کرتا ہے، مقام فکر ہے کہ ہم آج جن لوگوں میں تقویٰ کی ظاہری علامات دیکھتے ہیں انہیں ولی اللہ جانتے ہوئے ان کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ ان کی تعظیم کو عین سعادت سمجھتے ہیں لیکن اللہ جل شانہ نے جس جماعت کو تقویٰ کی اعلیٰ سند عطا فرمائی وہ کیوں قابل احترام نہ ہونگے؟ اور یہی نہیں بلکہ ان کے متعلق فرمایا: ”وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا“ اور وہ اسکے زیادہ حق دار تھے۔

اللہ جل شانہ کی عظمت کے آگے کیسا استحقاق؟ کہاں کی اہلیت؟ وہاں تو محبوبان بارگاہ الہی بھی اہلیت کی بات نہیں کرتے، محض اس کے فضل کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جماعت صحابہ کی عظمت، عقل و اندازہ سے وراء ہے، اللہ جل شانہ

فرما رہا ہے کہ کیفیت تقویٰ تمہارے دلوں میں راسخ کرنا محض میرا فضل ہی نہیں، بلکہ تم لوگ اس کے حق دار بھی ہو اور اہل بھی۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ۔

اہل سنت بھائیو! جن کے دلوں میں تقویٰ راسخ ہو گیا، جو لوگ انعام تقویٰ کے زیادہ مستحق اور اہل ہیں، ان کی عزت و احترام ان کی تکریم و تعظیم کے لئے کیا ہمیں گستاخانِ صحابہ اور ان کی معنوی اولاد کے مشورہ کی ضرورت ہے؟

سورۃ الحجرات کی آیت نمبر ۷ میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وہ توصیف بیان کی کہ قیامت تک دشمنانِ صحابہ کا منہ توڑ کر رکھ دیا جن کو اصحاب محمد ﷺ کے اخلاص اور ایمان پر شک ہو، اللہ جل شانہ کی شہادتِ عظمیٰ دل کے کانوں سے سن لیں کہ صحابہ کرام کے دل ایمان سے مزین ہیں اور انہیں کائنات کی ہر چیز سے ایمان زیادہ پیارا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ نافرمانی اور معصیت کو وہ دل سے ناگوار جانتے ہیں کیونکہ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ میں اصحاب رسول ﷺ و رضی اللہ عنہم معصوم نہیں ہیں، ان سے معصیت کا صدور ممکن ہے، لیکن ان کے لئے ان کی دلی ناگواری کے سبب اللہ جل شانہ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرمایا ہے۔ اسی لئے اس مقدس جماعت کا نام ”الراشدون“ رکھا۔ طریقِ حق پر قائم جماعت۔

سورۃ تحریم کی آیت نمبر ۸ میں اللہ جل شانہ نے کفار پر تعریض فرمائی کہ وہ دن کفار کے لئے رسوائی کا ہوگا اور حضرت محمد ﷺ اور آپ کے صحابہ کے لئے باعث عزت و وقار ہوگا اور ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دائیں ہوگا۔

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نور، ایمان دنیا سے لے گئے ہیں، اور قیامت کے دن وہ نور ان کے ساتھ ہوگا۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے اہل سنت و جماعت مسرور ہوں گے اور صحابہ کرام کے گستاخوں کے منہ پر پھٹکار ہوگی کہ جن کو دنیا میں ہم گالیاں بکتے رہے، وہ تو عزت پا گئے، نور والے ہو گئے اور ہم آگ میں جلنے والے اور خائب و خاسر رہ گئے۔

سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر ۲۲ میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر انعامات کا اتمام فرمایا، بندہ مؤمن کی ساری زندگی، زندگی کی تمام جدوجہد اور اعتقاد و اعمال کا سارا خلوص، محض رضائے الہی کے حصول کے لئے ہوتا ہے۔ وہ جماعت کتنی خوش نصیب جسے دنیا میں ایمان و عمل کی قبولیت کی نوید مل گئی اور انہیں اللہ جل شانہ کی رضا کا تاج پہنا دیا گیا، وہ مقدس جماعت رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی جماعت ہے، یہی وہ مقدس جماعت ہے جس پر اللہ جل جلالہ کے آخری رسول، قائد المرسلین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ خوش تھے، راضی تھے، مطمئن تھے، اسی جماعت کے لئے رحمت و برکت اور فتح کی دعائیں فرماتے تھے، اسی جماعت نے رسول اللہ ﷺ کے دین کو پھیلا یا اور دین اسلام کے پھریرے چار دانگ عالم میں لہرا دیئے، اسی جماعت کی کوششوں سے چودہ سو پچیس سال گزرنے کے باوجود زمین سے آسمان تک اللہ کی توحید کا ڈنکہ بج رہا ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ کی عظمت کے سکے جمے ہوئے ہیں، پورا عالم کفر آج بھی محمدی کچھار کے شیروں کی ہیبت سے لرز رہا ہے۔

یہ یونہی نہیں ہیں بلکہ علی کی لٹکار، طلحہ وزیر کی وفا، خندق والوں کا صبر، احد



والوں کی وفا کاری، خالد بن ولید کی جھپٹ، سعد بن ابی وقاص کا نعرہ مستانہ، بلال کا صبر، اصحاب خیبر کی جاں سپاری، اصحاب بدر کی جاں نثاری، صدیق کی محبت، عمر کی ہیبت، عثمان کی سخاوت اور معاویہ کے تدبیر کا تاریخی تسلسل ہے جو آج بھی مسلم امہ کو جہاد کے میدانوں کی طرف پکارتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلم نوجوانوں کے تن بدن میں بجلیاں کوند جاتی ہیں۔

اسی مقدس جماعت کے لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:-

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَهْلِ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَدِينَةَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَاضٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْرِفُوا ذَلِكَ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَاضٍ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدٍ وَسَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَعْرِفُوا ذَلِكَ لَهُمْ إِحْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي وَأَصْهَارِي۔ 1

”کعب بن مالک اپنے والد سے وہ اپنے دادا سہل سے روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام حجۃ الوداع کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا: کہ اے لوگو! اچھی طرح جان لو میں ابو بکر سے راضی ہوں، عمرو، علی، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، عبدالرحمن بن عوف سے راضی ہوں، اچھی طرح جان لو۔“

میری وجہ سے میرے صحابہ اور میرے سسرال کو اپنے شر سے بچاؤ۔“

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ سے راضی ہیں، اللہ جل شانہ نے

فرمایا: ”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ حبیب تیرا رب بھی تیرے صحابہ پر راضی ہے، اس کے بعد اللہ جل شانہ کے سلیم الفطرت بندے تو صحابہ کرام سے ناراض نہیں ہو سکتے، اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی، اللہ کے بندے راضی لیکن بدترین خلاق اور چند ذلیل و حقیر لوگ ناراضگی کی وجہ سے انہیں بھونکتے پھریں، تو ان کا کیا بگڑتا ہے۔ اس جماعت کی عظمت کا کیا کہنا؟ جن کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا کی سند اسی دنیا میں حاصل ہو گئی۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے امتحان، ان کے لیے نوید مغفرت، کلمۃ التقویٰ کا ان کے دلوں میں رسوخ اور استحقاق و اہلیت کی بشارت، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت، فسق و معصیت سے ان کی ناگواری، روزِ حشر ان کی عزت و تکریم، ان کے آگے پیچھے نور کی برسات اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سروں پر تاج پہنانا واضح طور پر بیان فرما رہا ہے۔ انہی پاک نفوس کے بارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے۔

☆ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ۔ ۱۔

”تم میں سے برابر نہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ

۱۔ (القرآن: پ ۲۷، سورة الحديد، آية ۱۰)

ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر ہے۔“

ابن جریر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

وَكُلُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٍ وَالَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ  
بَعْدُ وَقَاتِلُوا وَعَدَّ اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةَ بِإِنْفَاقِهِمْ فِي سَبِيلِهِ وَقِتَالِهِمْ أَعْدَاءَ۔

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عَيْسَى وَحَدَّثَنِي  
الْحَارِثُ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ قَالَ ثَنَا وَرْقَاءُ جَمِيعاً عَنْ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ  
وَمِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا وَآمَنُوا وَكَلَّوْا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسَيْنِي قَالَ الْجَنَّةَ۔ حَدَّثَنَا بِشْرٌ  
قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ (وَكَلَّوْا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسَيْنِي) قَالَ

الْجَنَّةَ۔ 1

اور وہ تمام جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اس کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے بدلے میں۔ ابن جریر اپنی سند کے ساتھ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الحسنی کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

ابن جریر دوسری سند کے ساتھ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ”الحسنی“ کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ اس سے جنت مراد ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے

1۔ (جامع البیان عن تاویل آمل القرآن: ص 288، ج 12، سورة الحديد امام ابن جریر الطبری)

پہلے اور بعد والے صحابہ سے وعدہ کیا ہے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری القرطبی لکھتے ہیں:

وَكَلا وَ عَدَّ اللهُ الْحُسْنَى أَيْ الْمُتَقَدِّمُونَ السَّابِقُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ

الْأَحْقُونَ وَعَدَّهُمُ اللهُ جَمِيعًا نِ الْحِجَّةَ مَعَ تَفَاوَةِ الدَّرَجَاتِ - م 1

اور سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، یعنی پہلے پہلے آنے والے اور بعد

میں آپ سے ملنے والے، اللہ نے سب سے درجات کے فرق کے باوجود جنت کا

وعدہ فرما دیا ہے۔

مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے سب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے

ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کی شان ہے۔ إِنْ اللهُ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔

جن کے ساتھ اللہ جل شانہ نے الحسنى کا وعدہ فرمایا ہے اس آیت میں ارشاد

فرمایا ہے کہ وہ جہنم سے دور رہیں گے۔

☆ إِنْ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝ لَا

يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ بِهِ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزَنُهُمْ

الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَلَقَّوهُمُ الْمَلَائِكَةُ ۝ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ م 2

”بے شک وہ جن کے لئے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے

جائیں گے۔ وہ دوزخ کی بھنک بھی نہ سنیں گے اور من مانی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں

1۔ (الجامع الاحکام القرآن للقرطبی: ص ۲۱۹، ج ۹)

2۔ (القرآن: پ ۱۸، سورۃ الانبیاء)

گے، انہیں غم میں نہ ڈالے گی سب سے بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔“  
صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک نقل فرماتے ہیں۔

کہ میں ”الحسنی“ والوں میں سے ہوں اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور عبدالرحمن بن عوف بھی ان میں سے ہیں۔

مذکورہ آیات سے روزِ روشن سے زیادہ واضح ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے سارے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ سے بعد والے، جس نے بھی حبیب خدا ﷺ کی غلامی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرمادی۔

اہل سنت بھائیو! گستاخ ہڈیان و بکواس بکتا ہے، صحابہ گرام کے اسلام لانے سے پہلے کے واقعات دہراتا ہے، ہم کہتے ہیں حالتِ کفر میں وہ کیا تھے؟ اس سے بحث کی ضرورت نہیں، کیا تکلیفیں حضور ﷺ کو پہنچائیں، ان باتوں کا کیا فائدہ، جب خود آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے سارے گناہ معاف کر کے اور ساری تقصیروں سے درگزر کر کے انہیں سینے سے لگا لیا۔ حاتمہ غلامی میں بٹھا لیا، ان کو جنت کا مالک بنا دیا، ہم کون ہوتے ہیں ان پر اعتراض کرنے والے؟

خبردار! سنیو! یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے غدار ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم قرآن کی صداقتوں اور رسول اللہ

ﷺ کے فرامین کے مقابلہ میں گستاخوں کے واویلا کو آوازِ سگاں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔

مذکورہ آیات پینات کی روشنی میں دعوتِ فکر دیتا ہوں اربابِ دانش و بینش کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہونے پر امت مسلمہ کا اجماع ہے محدثین، مفسرین، متکلمین، صوفیاء اور فقہاء متفق اللسان ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا ﷺ کے نہ صرف صحابی ہیں، بلکہ فقیہ صحابہ میں سے ہیں، محدث ہیں، کاتبِ وحی ہیں، مجاہد ہیں، فاتح ہیں، خال المؤمنین کے لقب سے ملقب ہیں۔

حمر الامۃ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بخاری

شریف میں ہے:

أَنَّ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - م 1

”بے شک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں۔“

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان تمام آیات

پینات کے مصداق ہیں، تقویٰ والے، اخلاص والے، مغفرت والے، اجر عظیم پانے والے

کلمۃ التقویٰ کے استحقاق اور اہلیت والے، ایمان سے پیار کرنے والے،

1۔ (صحیح البخاری: ص ۵۳۱، ج ۱)

(الاصباہ فی تمیز الصحابہ: ص ۴۱۳، ج ۳)

ایمان سے مزین دل والے، کفر، فسوق و عصیان کو ناگوار جاننے والے، الراشدون والے، قیامت کے دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت اعزاز و اکرام پانے والے، نور کی برسات والے، رضائے الہی کے تاج والے، الحسنیٰ والے، جنت والے، جہنم سے دوزرہنے والے، جہنم کی بھنک نہ سننے والے، فرشتوں کے استقبال سے اعزاز پانے والے، مصطفیٰ والے اور خدا والے۔

دورِ حاضر کے بدفطرت، بدترین خلائق جن ہستیوں کے ایمان و اسلام پر زبان طعن و راز کرتے ہیں، عیب و ریب کے الزام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو ان مقدس ہستیوں کے ایمان و اسلام کو یہود و نصاریٰ وغیرہ کے لئے مثالی اور معیاری ایمان قرار دیا ہے اور تا قیام قیامت دین کی دعوت قبول کرنے والوں کے لئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو معیارِ حق بنا دیا۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

☆ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ  
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ 1

”اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، سنتا ہے! وہی احمق ہیں مگر نہیں جانتے۔“

ابن جریر اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ) يَقُولُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ صَلِّعُوا كَمَا صَدَّقَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ۱

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مذکورہ آیت کی یہ تفسیر مروی ہے

کہ ”جب کہا جائے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے اصحاب محمد“

سورۃ البقرۃ میں ہی دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

☆ فَإِنِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي

شِقَاقٍ ۲

”پھر اگر وہ یونہی ایمان لائے جیسا تم لائے ہو جب تو وہ ہدایت پائیں گے

اور اگر منہ پھیریں تو وہ نرے ضد میں ہیں۔“

مذکورہ آیت مبارکہ کے تحت ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں

ارتقا فرماتے ہیں:

ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ (فَإِنِ آمَنُوا) يَعْنِي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

(بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ) يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ (فَقَدْ اهْتَدَوْا) مِنَ الضَّلَالَةِ ۳

”اللہ عزوجل نے مؤمنین سے فرمایا: اگر ایمان لائیں یہود و نصاریٰ

۱ (جامع البيان عن تاويل آمل القرآن: ج ۱، الامام ابن جرير طبري)

۲ (القرآن: پ اول، البقرۃ، ۱۳۷)

۳ (تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم: ج ۱ - ص ۱۲۴،

سورة البقرۃ)



تمہارے ایمان کی طرح اے اصحاب محمد! تو گمراہی سے ہدایت پائیں گے۔“

اسی آیت مبارکہ کے تحت علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَالْمَعْنَى أَنْ تَحْتُوا الْإِيْمَانَ بِطَرِيقٍ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ مِثْلَ طَرِيقِكُمْ۔ 1

”اگر ایمان تلاش کریں اسی طرح جس طرح اے اصحاب محمد آپ ہیں، تو

ہدایت پائیں گے۔“

جس جماعت کے ایمان کو اللہ جل شانہ بطور مثال، بطور معیار اور ماڈل پیش

کر رہا ہے۔ اس معیار کے بارے میں زبان طعن دراز کر نیوالے، گالیاں بکنے والے

تمہارا کرنے والے سوچیں کہ معیار حق سے جنگ، دنیا و آخرت میں تباہی و بربادی کا

سبب بنے گی۔

اہل اسلام! مقام فکر ہے، سابقہ اُمتوں میں مومنین نے اپنے اپنے رسل

کرام کے صحابہ کو برا نہیں کہا، اصحاب نبی پر اعتراض، اصل میں نبی کی تعلیم و

تربیت، تبلیغ نبوت اور دعوت توحید پر عدم اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور خاتم النبیین علیہ

الصلوة والسلام کے اصحاب پاک پر طعن کرنے والے کسی ایک صحابی کے بارے میں

ہی نہیں جکتے، بلکہ شیعہ عالیہ کے اصول کی کتب میں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے صحابہ کی جماعت کو من حیث الجماعت۔۔۔ قرار دیا گیا ہے۔

اب بتائیں اگر قائد المرسلین، سید النبیین ﷺ کی آخری نبوت و رسالت

کے یہی اثرات مرتب ہونے تھے تو دین کے کمال و اتمام کا اعلان کس لئے ہوا؟ نبوت

ورسالت کے سلسلہ کو کس لئے ختم کیا گیا؟

کیا پورے قرآن میں بعثت حضور کا کہیں یہ مقصد قرار دیا گیا ہے کہ اپنے گھر کے پانچ سات بندے اور دو چار ساتھی پاک کر دو تو آپ کی رسالت کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ قرآن کریم میں بعثت حضور کا مقصد تو یہ ملتا ہے۔

☆ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ م۔ 1

”وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے گواہ۔“

اس آیت کریمہ میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت عظمیٰ کا منشور بتا دیا گیا کہ رسولوں کے قائد، نبیوں کے

سر دار، دنیا میں اپنے مالک کی پہچان بن کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے آئے ہیں۔

اہل اسلام غور کریں کتنا عالی و عظیم مقصد ہے جسے شیعوں نے محض ایک گھر کی لڑائی تک محدود کر دیا ہے۔

زمین کا ذرہ ذرہ، آسمان کا گوشہ گوشہ، اشعارہ ہزار عالمین بڑے شد و مد سے گواہی دے رہے ہیں کہ یا اللہ العالمین، محمد رسول اللہ ﷺ نے تیری نبوت و رسالت کا حق ادا کر دیا، توحید کا غیر محسوس عقیدہ کائنات نے تیرے محمد کے بولوں میں ایسے سمجھا

کہ انسان تو انسان پتھروں نے بھی پکارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

مجھے کہنا پڑے گا کہ شیعیت اسلام سے غداری کا نام ہے، حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے غداری کا نام ہے، دین اسلام کی عمارت گرا دینے کی سازش ہے، یہودیت کا اسلام پر کھلا حملہ ہے۔

اہل اسلام! ہمارے خالق و مالک کی منشا پوری ہوئی، رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا مقصد پورا ہوا۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے ادیانِ باطلہ اور ان کے داعیوں کو قیامت تک کے لئے پیوندِ زمین کر دیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم بلند کر دیا، بنی نوع انسان کے سینوں میں شرک و کفر کی ظلمتیں دھو کر انہیں توحید کے انوار سے جگمگا دیا۔ منشاءِ الہی کی تکمیل کے لئے، بعثتِ رسالت کے مقاصد کے حصول کے لئے جہاں خود حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی محنتوں کی مثال انبیاء و رسل کی تاریخ میں نہیں مل سکتی، وہاں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے اصحاب نے بھی اپنی جان نثاری و فداکاری کی وہ تاریخ رقم کی کہ خریطہٴ عالم پر اس کی مثال ملنا مشکل ہے، اسی لئے قرآن عظیم نے محمدی انقلاب کے نقیبوں کی عظمت کو یوں بیان کیا ہے:-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ  
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي  
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ  
كَزَّرِيعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّ  
اعَ لِيَصْفِيَهُمْ الْكُفَّارَ ط وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ 1

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، وہ اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں ان کی علامت، ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں، ان کی صفت توریت اور انجیل میں ہے، جیسے ایک کھیتی نے اپنا ایک پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دین ہوئی، پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا، ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا۔

اہل اسلام! یہ ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ جن کی محنتوں کی گواہی قرآن دے رہا ہے، صحابہ کرام کے خلاف اپنا بغض ظاہر کرنے کے لئے قرآن مجید میں جب کوئی تائید نہیں ملتی، تو شیعہ تاریخ کے حوالوں میں پناہ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے تاریخ کے رطب و یابس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، تاریخ کا نہیں کہ ان کی گواہی کے ہوتے ہوئے تاریخ کی طرف بھاگیں، شیعہ ہیں کہ اللہ سے ناراض، رسول اللہ سے ناراض، قرآن سے ناراض، صحابہ سے ناراض، اجتماعی دھارے سے کٹ کر دین اسلام کے نوحہ گر بن کر منہ بسورے ہیں۔ نہ دعوتِ قرآن، نہ اشاعتِ اسلام، نہ احیاءِ سنت، اہل دانش و بینش سے مخفی نہیں اور یہ سبھی صحابہ کرام کی دشمنی کی نحوست ہے۔

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَأَرِزُقْنَا تَبَاعُهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرِزُقْنَا  
 اجْتِنَابَهُ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْمُحْفُوظِينَ وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ صَلَوَةُ  
 اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔



انکار حسینی ہو کہ اقرار بلالی ہو  
 انکار بھی لاقانی اقرار بھی لاقانی

(سید محمد عرفان مشہدی موسوی)

## احادیث مبارکہ کی روشنی میں

### صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مقام

اللَّهُ أَلَّهُ فِي أَصْحَابِي لِأَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ  
فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ  
آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ ۗ 1

”میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو میرے  
بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری  
محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس شخص نے ان سے بغض کیا اس نے میرے  
ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض کیا اور جس نے صحابہ کو اذیت دی، اس نے مجھے  
اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی، اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی اور جو اللہ تعالیٰ  
کو ایذا دینے کا ارادہ کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں پکڑے گا۔“  
حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ اس طرح ہے:-

(۱) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَيَّ  
جَمِيعِ الْعَالَمِينَ سِوَا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَاخْتَارَنِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ  
وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي ۗ 2

1۔ جامع ترمذی

2۔ رواہ البزاز بسند صحيح والديلمي و شرح شفا لعلی قاری رحمه الباری

”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو انبیاء و مرسلین کے علاوہ سارے جہانوں میں سے پسند فرمایا، پھر میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے میرے لئے چار کو پسند فرمایا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور انہیں میرے بہترین ساتھی قرار دیا۔“

فضائل صحابہ میں حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي أِنَارٍ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، فَقَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي - 1

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی وہ سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ گرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ﷺ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؟ جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقہ کی پیروی کرنے والا ہوگا۔“

ایک حدیث پاک میں صحابہ گرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ساری امت سے بہتر قرار دیا گیا ہے:-

(۳) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعاً

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - 1

”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو ان

کے بعد ہونگے، اور پھر

جو ان کے بعد ہونگے۔“

(5) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا مَا مِنْ أَصْحَابِي يَمُوتُ بِأَرْضِ الْأَ

بُعَثَ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - 2

”حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: نہیں مرے گا میرا صحابی کسی زمین میں مگر وہ قیامت کے دن ان کے

قائد اور مینارہ نور کی حیثیت سے اٹھایا جائیگا۔“

ان احادیث عالیہ مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ نے واضح فرمایا کہ صحابہ کرام

علیہم الرضوان کو ذات رسالت مآب ﷺ سے قرب اور محبت حاصل ہے۔ صحابہ سے

محبت، حضور ﷺ سے محبت اور صحابہ سے بغض، حضور اقدس ﷺ سے بغض ہے اور

صحابہ کو ایذا دینا گویا کہ حضور رسالت مآب ﷺ کو ایذا دینا ہے۔

ان بد خصلت اور بد فطرت لوگوں کے لئے یہ غور و فکر کا مقام ہے جو صحابہ

کرام کے خلاف زہرا گلتے رہتے ہیں، ان کا یہ قبیح فعل ان کے جہنمی ہونے کے لئے

1۔ رواہ البعاری والترمذی والحاکم

2۔ رواہ الترمذی



کافی ہے۔

حدیث نمبر ۲ میں حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے صحابہ انبیاء و مرسلین کے بعد سارے جہان سے اللہ کے ہاں پسندیدہ و منتخب ہیں، معاشرے اور ماحول میں ہمارا منتخب اور چننا ہوا شخص ممتاز مانا جاتا ہے، حالانکہ وہ دنیوی معاملات کے لئے تھوڑے سے علاقے سے چنا جاتا ہے، تو بتائیے جو اللہ جل شانہ کا انتخاب ہو اور سارے جہان سے چنا جائے، وہ سارے جہان سے ممتاز کیوں نہ ہو؟ اور سارے جہان والوں پر اس کی تعظیم و تکریم کیوں لازم نہ ہو؟

حدیث نمبر ۳ میں رسول اللہ ﷺ نے اہل نجات اور اہل حق کی علامت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیروی کو قرار دیا ہے۔

جن لوگوں کو آج تک صحابہ سے عناد اور بغض ہے وہ ان کی پیروی کیسے کریں گے؟ اور جو ان کی پیروی نہیں کریں گے، حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مطابق ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اہل سنت و جماعت جہنیوں کی جماعت کو چپچاپیں اور ان کے حیلے بہانوں اور منافقت سے ہوشیار رہ کر اپنا ایمان بچائیں۔

حدیث نمبر ۴ میں رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کو پانے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، جب صحابہ کرام علیہم الرضوان بہترین امت ہیں تو ان کی تعظیم و تکریم اور ان کے لئے نیک دعا اور ذکر خیر، بعد میں آنے والے مسلمانوں پر لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:-

وَعَنْ عُمَرَ ابْنِ الْعَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا أَكْرَمُوا

أَصْحَابِي فَأِنَّهُمْ خَيْرٌكُمْ - 1

”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ میرے صحابہ کا اکرام کرو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں۔“

حدیث نمبر ۵ میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کوئی ایک، جس زمین میں دفن ہوگا، روزِ حشر وہاں کے مدفون مسلمانوں کے قائد اور ان کے لئے میدانِ حشر کو منارۃ نور کی حیثیت سے ان کے آگے آگے جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اصحاب رسول ﷺ اہل ایمان، اصحاب جنت کے قائد اور ان کے لئے مینارۃ نور ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام کے مخالفین جہنمی اور ظلمت و گمراہی میں بھٹکنے والے ہیں۔

☆.....☆.....☆.....☆

انکار بھی پر دم ہو اقرار پر دم ہو  
بے دم انکار عبث ہے دم اقرار عبث

سید محمد عرفان مشہدی

## احادیث مبارکہ کی روشنی میں

### حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام

بالعموم مذکورہ آیات بینات و احادیث مبارکہ کے مصداق میں حضرت امیر معاویہ یقیناً شامل ہیں۔ اب سرکار ابد قرار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وہ فرامین و احکام عالیہ نقل کئے جاتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور انہی کی ذات اقدس سے متعلق ہیں۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا وَاهْدِيهِ۔ 1

”صحابی رسول حضرت عبدالرحمن بن ابوعمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا: اے اللہ! معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا اور ان کے سبب سے لوگوں کو ہدایت دے۔“

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ عَمْرُو بْنُ يَنْحَى ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَخَذَ الْآدَوَاءَ بَعْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ يَتَّبِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَا وَاشْتَكَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَبَيْنَا هُوَ يُوضِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةَ إِنَّ وُلَيْتَ أَمْرًا فَاتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْدِلْ قَالَ فَمَا زِلْتُ أَظُنُّ أَنَّي مُبْتَلَى بِعَمَلٍ يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى

ابْتَلَيْتُ - م 1

”ابو امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا سے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیمار ہونے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ ﷺ کو وضو کرارہے تھے، رسول اللہ ﷺ نے سر اٹھا کر انہیں ایک دو بار دیکھا، پھر فرمایا: اگر تم حاکم بنو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور عدل کرنا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی وجہ سے مجھے ہمیشہ یہ گمان رہا کہ میں اس عمل میں مبتلا کیا جاؤں گا، یہاں تک کہ مجھے حاکم بنا دیا گیا۔“

امام ابو یعلیٰ بیان کرتے ہیں:

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَضُّوا قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةُ إِنَّ وُئِيَتْ أَمْرًا فَاتَّقِ اللَّهَ وَاعْدِلْ فَمَا زِلْتُ أَظُنُّ أَنِّي مُبْتَلَى بِعَمَلِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى وُئِيَتْ - م 2

”حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وضو کرو، جب آپ نے وضو کیا، تو میری طرف دیکھا اور فرمایا اے معاویہ! جب تم کسی جگہ حکومت کرو، تو اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا، پس رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی وجہ سے میں ہمیشہ یہ گمان کرتا رہا کہ میں حکومت کرنے پر مقرر کیا جاؤں گا، حتیٰ کہ مجھے حاکم بنا دیا گیا۔“

1۔ مسند امام احمد: ج 4 ص 101، طبع بیروت

2۔ مسند ابو یعلیٰ: ج 6 ص 442، طبع بیروت

حافظ بیہمی نے لکھا ہے کہ امام احمد اور امام ابو یعلیٰ کی اس روایت کے راوی صحیح ہیں۔

(۴) عَنِ الْعَرَبِيَّاتِ بْنِ سَابِرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ عَلِّمْ مَعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ۔ 1

حضرت عرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! معاویہ کو لکھنا اور حساب کرنا سکھا دے اور اس کو عذاب سے بچا۔  
اس حدیث کو امام بزاز اور امام احمد نے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے۔

(۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ جَبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اسْتَوْصِ مَعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَنِعْمَ الْأَمِينُ هُوَ۔ 2

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل امین رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا:

اے محمد ﷺ معاویہ سے خیر خواہی کرو کیونکہ وہ اللہ کی کتاب پر امین ہیں اور کیا ہی اچھے امین ہیں۔“

(۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مَعَاوِيَةَ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔ 3

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ ﷺ کے سامنے لکھتے تھے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے

1۔ رواء البزاز و احمد في حديث طويل، مجمع الزوائد: ج ۹، ص ۳۵۶

2۔ مجمع الزوائد: ج ۹، ص ۳۸۷۔ 3۔ رواء الطبرانی و اسناد حسن

روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔“

(۷) عَنْ يَزِيدَ ابْنِ الْأَصَمِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَايَ مُعَاوِيَةَ فِي

الْحَنَّةِ، رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَرَجَالَهُ وَثَقُوا وَفِي بَعْضِهِمْ خِلَافٌ۔ 1

”حضرت یزید بن اصم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

میرے اور معاویہ کے لشکروں کے شہید جنت میں ہیں۔“

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے بعد راویوں کی توثیق کی گئی ہے

ان میں سے بعض میں اختلاف ہے۔“

۸ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا م بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشْبَهَ

صَلْوَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَمِيرٍ كُمْ هَذَا يَعْنِي مُعَاوِيَةَ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَرَجَالَهُ

رجال الصحيح غير قيس۔ 2

”حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول

اللہ ﷺ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ

رسول اللہ ﷺ کی نماز سے مشابہ نماز پڑھتا ہو۔“

## اولین بحری بیڑہ کی ایجاد

تاریخ اسلام میں بحری بیڑہ کی تیاری اور بحری جہاد کا پہلا واقعہ ۲۸ ہجری میں ہوا۔

1۔ مجمع الزوائد: ج ۹ ص ۳۵۷

2۔ مجمع الزوائد: ج ۹ ص ۳۵۷

ابن خلدون لکھتے ہیں:

حضرت معاویہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بحری بیڑہ تیار کرایا اور مسلمانوں کو اس کے ذریعہ جہاد کی دعوت دی، ہمیں یہاں تاریخی حیثیت ذکر کرنے کی غرض نہیں بلکہ اس کے متعلق جو عظیم سعادت انہیں حاصل ہوئی اس کا ذکر مقصود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے۔

أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا 1

”بحری لڑائی لڑنے والے میری امت کے پہلے لشکر نے اپنے اوپر جنت

واجب کر لی ہے۔“

۲۷ھ ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری بیڑہ لے کر قبرص کی

جانب روانہ ہوئے اور ۲۸ھ ہجری میں وہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو گیا اور پھر آپ نے

وہاں کے لوگوں پر جزیہ عائد کیا۔ 2

یہ تمام روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ظاہر کرتی

ہیں، ہم نے بلا تبصرہ نقل کر دی ہیں، ہم معاندین حضرت معاویہ کو دعوتِ فکر دیتے ہیں کہ

وہ اپنی خواہشاتِ نفس کی پوجا چھوڑ کر، اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ و

التسلیم کے ارشادات مبارکہ پر ایمان لاتے ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کی دشمنی چھوڑ کر انہیں صحابی رسول سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم و تکریم کریں اور اپنی موجودہ

روش پر قائم رہتے ہوئے اپنی عاقبت تباہ برداونہ کریں۔

1۔ صحیح البخاری: ص ۳۱۰، ج ۱، طبع دہلی

2۔ ابن خلدون: ص ۱۰۰۸، ج ۲، طبع بیروت

## تمام صحابہ پر طعن کی ممانعت

اس مختصر کتاب میں صرف پانچ احادیث ذکر کی جا رہی ہیں۔

(1) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ السُّخَدْرِيِّ مَرْفُوعًا لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ

انْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ ۝ 1

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا نہ کہو، کیونکہ تم سے کوئی شخص احد پہاڑ

کے برابر سونا بھی خرچ ڈالے تو ان کے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس کے نصف کو۔“

یہ حدیث مسلم اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے اور ابو بکر زرقانی نے اس کو علی شرط

شیخین روایت کیا ہے۔

(2) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُغْفَلٍ مَرْفُوعًا اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ

عَرَضًا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِإِبْغِضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ

آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوْشِكُ أَنْ

يَأْخُذَهُ ۝ 2

”حضرت عبداللہ بن مغفل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو اپنی بدگوئی کا نشانہ

1۔ (رواہ البخاری و مسلم و ابوداؤد و الترمذی و رواہ المسلم و ابن ماجہ عن ابی

ھریرہ و رواہ ابو بکر البرقانی علی شرط الشیخین)

2۔ رواہ الترمذی



نہ بناؤ کیونکہ جس نے ان سے محبت کرنی ہو وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے اور جس نے ان سے بغض رکھنا ہے تو اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اسے اللہ تعالیٰ جلد پکڑے گا۔“

3 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعاً إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ۔ 1

”حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جب ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو یوں کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔“

4 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ 2

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے،

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص میرے صحابہ کی بدگویی کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔“

5 عَنِ الْحَسَنِ مَرْفُوعاً أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَنِي أَصْحَاباً فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ

1۔ رواه الترمذی

2۔ الناهية عن طعن معاوية علامه پرہاروی

وَزُرَّاءَ وَانْصَارًا وَاصْهَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ  
أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ۱

”حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لئے میرے رفقاء کو چنا، ان سے میرے وزیر مشیر و رشتہ دار بنائے لہذا جس نے ان کی بدگوئی کی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ اس کے کسی فرض و نفل کو قبول نہیں فرمائے گا۔“



لحہ لحہ سنتا ہوں آذانِ کربلا  
عرفان اٹھ کہ نوبتِ جماعت کی آئی ہے

سید محمد عرفان مشہدی

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نظر میں

امیر المؤمنین مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے  
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکوہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

دَعُونَا مِنْ دَمِ قَتْلَى قُرَيْشٍ مَنْ يُّضْحِكُ فِي الْغَضَبِ وَلَا يَنَالُ مَا  
عِنْدَهُ إِلَّا عَلَى الرِّضَا وَلَا يُؤْخَذُ مَا فَوْقَ رَأْسِهِ إِلَّا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ۔ 1

قریش کے اس جوان کی برائی مت کرو جو غصہ کے وقت ہنستا ہے اور اس  
کے پاس جو کچھ ہے اس کی رضا مندی کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا اور اس کے سر کی  
چیز حاصل کرنے کے لئے اس کے قدموں پر جھکنا پڑتا ہے۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا: اے  
لوگو! تم میرے بعد فرقہ بندی سے بچو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ رکھو کہ معاویہ شام  
میں موجود ہے۔ 2

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت فاروق اعظم رضی  
اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم قیصر و کسریٰ کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ تم میں  
معاویہ موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو شام میں

1۔ الاستیعاب ابن عبد البر: ص 377 ج 3 طبع مصر

2۔ ابن حجر الاصابہ: ص 14 ج 3 طبع مصر

گورنر مقرر کیا، دنیا جانتی ہے کہ فاروق اعظم گورنروں کے تقرر میں بہت محتاط تھے، جب تک کسی شخص پر مکمل اطمینان نہ ہو جاتا، اسے کسی علاقے کا امیر نہ بناتے، پھر جسے گورنر بناتے اس کی پوزی ٹکرانی کرتے، اسے معزول کر دیتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو گورنر مقرر کرنا اور انہیں تمام زندگی اس عہدے پر برقرار رکھنا، امیر المؤمنین کا آپ پر مکمل اطمینان ظاہر کرتا ہے۔

☆ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ بھی آپ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ آپ کو شام کی گورنری کے عہدہ پر نہ صرف باقی رکھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اردن، حمص، قسریں، فلسطین وغیرہ بھی آپ کی گورنری میں دے دیئے۔

☆ اسد اللہ الغالب میرے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شامی لشکر کے بارے میں وہ ارشاد، جو بطور اعلان تمام شہروں میں بھیجا۔

وَكَانَ يُدَا مِرْنَا أَنْ التَّقِينَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالظَّاهِرُ أَنْ رَبَّنَا  
وَاحِدٌ وَدَعَوْتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ  
وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ نَحْنُ مِنْهُ  
بِرَاءٌ۔ 1

”ہمارے آپس کے جھگڑے کا آغاز یہ ہے کہ ہم اور شامی آپس میں ٹکرائے،

حالانکہ ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا خدا ایک ہے، ہماری دعوت اسلام بھی ایک ہے، ایمان باللہ اور تصدیق رسل میں، نہ ہم ان سے کسی اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ وہ ہم سے کرتے تھے، ہم سب ایک تھے، اختلاف تو صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں تھا، حالانکہ اس خون میں ہم بری الذمہ تھے۔“

میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ شہید خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا ارشاد گرامی:

رَوَى جَعْفَرُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ إِنَّا لَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلُونَا عَلَى التَّكْفِيرِ لَنَا وَلَكِنَّا رَأَيْنَا أَنَّ عَلِيَّ حَقٌّ رَأَوْنَا عَلِيَّ حَقًّا - 1

”حضرت امام جعفر صادق اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ بیشک علی اپنے محاربین کے متعلق فرماتے تھے، بے شک ہم ان سے اس لئے نہیں لڑے کہ وہ کافر تھے، اور نہ اس لئے کہ وہ ہم کو کافر کہتے تھے بلکہ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو حق پر سمجھا اور انہوں نے خود کو حق پر سمجھا۔ یعنی اس جنگ کی بنا اجتہاد پر تھی“

میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ شہید خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا ارشاد گرامی جس میں آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شامی لشکر کو اپنا بھائی فرمایا۔

1۔ لابی عباس عبد اللہ بن جعفر الحمیری ابی محمد علی من اصحاب الامام

العسکری قرب الامنادص ۴۵ طبع تہران

جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ أَلَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ يَنْسَبُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ

حَرْبَةٍ إِلَى الشِّرْكِ وَلَا إِلَى النِّفَاقِ وَلَكِنْ يَقُولُ هُمْ إِخْوَانُنَا بَغَوَا عَلَيْنَا۔ 1

”حضرت امام جعفر صادق اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے روایت کرتے

ہیں کہ بے شک علی علیہ السلام اپنے محاربین میں سے کسی کو بھی مشرک اور منافق نہیں

کہتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہماری اطاعت

نہیں کی۔“

میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا ارشاد گرامی:

أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَكْرَهُوا أَمَارَةَ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّكُمْ لَوْ فَقَدْتُمْ تَمُوهَ رَأَيْتُمْ الرُّؤْسَ

تَنْدُرُ عَنْ كَوَا إِهْلِهَا كَأَنَّهَا الْحَنْظَلُ۔ 2

”حضرت علی المرتضیٰ جب جنگ صفین سے واپس لوٹے تو فرمایا: اے لوگو! تم

معاویہ کی گورنری اور امارت کو نا پسند نہ کرو کیونکہ اگر تم نے انہیں گم کر دیا تو دیکھو گے کہ

سراپے شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنظل کا پھل اپنے

درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے۔“

حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرامین عالیہ سے

بخوبی واضح ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن، مسلمان، مخلص

اور اپنا بھائی قرار دیا ہے اور وہ اپنے اور ان کے درمیان جنگ کو ان کی اجتہادی خطا پر

1۔ قرب الاسناد: ص ۴۵، طبع تہران

2۔ حافظ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ: ص ۱۳۱ طبع مصر

محمول کرتے تھے، اس لئے میرے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو جنتی قرار دیا۔

سُئِلَ قِتَالُ يَوْمِ الصَّفِينِ فَقَالَ قَتَلَانَا وَقَتَلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ۔ 1

صفین کے قتال کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا گیا۔

”ہمارے مقتول اور ان کے مقتول دونوں جنتی ہیں۔“



سیدنا امام ابو محمد الحسن وسیدنا ابو عبد اللہ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما

اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

قَالَ يَا حَسَنُ قُمْ فَبَايِعْ فَقَامَ فَبَايَعَ ثُمَّ قَالَ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُمْ  
فَبَايِعْ فَقَامَ فَبَايَعَ ثُمَّ قَالَ يَا قَيْسُ قُمْ فَبَايِعْ فَالْتَفَتَ إِلَى الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
يَنْظُرُ مَا يَأْمُرُهُ فَقَالَ يَا قَيْسُ إِنَّهُ إِمَامِي يَعْنِي الْحَسَنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ 1

”امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مع ساتھیوں کے شام بلایا، جب یہ سب آگئے تو گفتگو کے آخر میں امیر معاویہ نے امام حسن سے فرمایا:

”اٹھئے اور میری بیعت کیجئے، آپ اٹھے اور بیعت کی، پھر امام حسین کو اٹھ کر بیعت کرنے کو کہا، انہوں نے بھی اٹھ کر بیعت کی، پھر قیس کو فرمایا: اٹھ کر بیعت کرو، اس نے امام حسین کی طرف نظر کی تا کہ مرضی معلوم کر سکے، آپ نے فرمایا: اے قیس! امام حسن میرے امام ہیں۔“

یہی حوالہ اہل سنت کی کتاب الاستیعاب میں یوں ہے:-

اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ حُسَيْنٌ بَايَعَ لَهُ الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
وَجَمَاعَةٌ مِمَّنْ مَعَهُ۔ 2

1 (شیعی کتب رجال کشی: ص ۱۱۲، تذکرہ قیس بن سعد، مطبوعہ کربلا)

2 (الاستیعاب تحت الاصابہ: ص ۳۶۸، ج ۳، طبع بیروت)



”جب حضرت امام حسن اور ان کی جماعت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تو سب لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے۔“

سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح اور شرائط کے بارے میں تاریخ طبری سے اقتباس:

وَقَدْ صَالَحَ الْحَسَنُ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَنْ جَعَلَ لَهُ مَا فِي بَيْتِ مَالِهِ  
وَحِرَاجِ دَارِ أَبِجَرْدٍ وَعَلَى أَنْ لَا يُشْتَمَ عَلَيَّ وَهُوَ يَسْمَعُ فَاخَذَ فِي بَيْتِ مَالِهِ  
بِالْكُوفَةِ وَكَانَ فِيهِ خَمْسَةُ آلَافِ أَلْفٍ۔ 1

”حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح اس شرط پر کی تھی کہ کوفے کے بیت المال میں جو کچھ ہے وہ ان کا ہوگا، نیز! ابجد کا خراج ان کو ملا کرے گا اور یہ کہ ان کے سامنے حضرت علی پر سب و شتم نہیں ہوا کرے گا۔ پس انہوں نے وہ تمام رقم لے لی جو کوفہ کے بیت المال میں تھی اور وہ پانچ کروڑ تھی۔“

”حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذرانہ پیش کیا جو چالیس کروڑ درہم تھا۔“ 2

”حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

1۔ (تاریخ طبری: ج 6 ص 92) 2۔ (مرقاۃ۔ شرح مشکوٰۃ)

عندہ کو بیت المال سے بقول بعض پچاس لاکھ اور بعض ستر لاکھ روپے دیئے تھے<sup>1</sup>  
حافظ ابن حجر عسقلانی محدث لکھتے ہیں:

”امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس

آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چار لاکھ درہم دیئے۔“<sup>2</sup>

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

لئے سالانہ دس لاکھ درہم مقرر کئے اور اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ

دس سال زندہ رہے۔“<sup>3</sup>

علامہ بدرالدین عینی محدث حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین

لاکھ درہم، ایک ہزار کپڑے، تیس غلام، اور ایک سواونٹ پیش کئے۔“<sup>4</sup>

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ

عندہ کے ہاں دمشق میں تشریف لے جاتے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی

ان کے ہمراہ ہوتے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انعامات دیتے

یہاں تک کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی حضرت امام

حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے

جاتے رہے۔

1۔ (البدایہ والنہایہ: ج ۸ ص ۴۱) 2۔ (الاصابہ تمیز الصحابہ: ج ۱ ص ۳۳۰، طبع بیروت)

3۔ (الاصابہ تمیز الصحابہ: ج ۱ ص ۳۳۰)

4۔ (عمدة القاری شرح صحیح بخاری: ص ۲۸۳، طبع بیروت)

وَلَمَّا تُوَفِّيَ النِّحْسَنُ كَانَ الْحُسَيْنُ يَغْدُو إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي كُلِّ عَامٍ

يُعْطِيهِ وَيَكْرُمُهُ۔ 1۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، وہ ان کا اعزاز بھی کرتے اور انعامات بھی پیش کرتے رہے۔“

ان حوالہ جات سے بالکل واضح ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا گہرا تعلق تھا۔ کیا کوئی محبت اہل بیت یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحابی رسول نہ سمجھتے تو اپنی جماعت کے ہمراہ ان کی بیعت کر لیتے؟ ان کے پاس آتے جاتے؟ ان کے مہمان بنتے؟ ان سے کروڑوں روپیہ نذرانہ لیتے؟ خلافت ان کے سپرد کرتے؟ انہیں اپنا امام اور پیشوا تسلیم کرتے؟ جب حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلبی تعلق ہے تو دشمنان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، مدعی ست گواہ چہت والا کردار نہیں تو اور کیا ہے۔

حضرات صحابہ گرام علیہم الرضوان کی نظر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کی عزت اور قدر و منزلت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

☆ حبر الامۃ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک

1۔ (البدایہ والنہایہ: ج ۸ ص ۱۶۲)

فقہی مسئلہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا: ”اِنَّهُ فَقِيْهُ“ ایک روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا ”اِنَّهُ“ قَدْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہے، ان پر اعتراض نہ کرو۔

اس طرح آپ کی خدمت میں آپ کے آزاد کردہ غلام کریب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وتر کی تین رکعتوں کی بجائے ایک رکعت پڑھنے کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا:

أَصَابَ أَيْ بُنَى لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ۔ 1

”اے بیٹے! جو کچھ معاویہ نے فرمایا، صحیح ہے، کیونکہ ہم میں معاویہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دنیاوی امور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول مشہور ہے:

”مَا رَأَيْتُ أَحْلَصَ يَا أَحْرَى لِلْمَلِكِ مِنْ مُعَاوِيَةَ۔ 2

”کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر سلطنت اور بادشاہت کے لائق کسی اور کو

نہیں دیکھا“

☆ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کی گورنری سے عمیر بن

سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر

1۔ (صحیح بخاری شریف، الاستیعاب: ج ۳ ص ۳۸۳)

2۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ: ج ۸ ص ۱۳۹

کیا، ان کے کچھ مؤیدین نے ان کے سامنے چہ میگوئی کی تو عمیر بن سعد نے فرمایا:

لَا تَذْكُرُوا الْمَعَاوِيَةَ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ ۱

”معاویہ کا ذکر صرف بھلائی کے ساتھ کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو

ان کے متعلق یہ دعا دیتے سنا ہے، اے اللہ! اس (معاویہ) کے ذریعہ سے ہدایت عطا فرما۔“

☆ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں (حضرت علی و معاویہ کی جنگوں میں غیر جانبدار رہے) فرمایا کرتے تھے:

مَا رَأَيْتُ بَعْدَ عُثْمَانَ أَقْضَى بِحَقِّ مَنْ صَاحِبِ هَذَا الْبَابِ يُغْنِي

مُعَاوِيَةَ ۲

”میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہ سے بڑھ کر حق کا فیصلہ دینے والا نہیں پایا۔“

☆.....☆.....☆.....☆

1۔ (ابن کثیر، البدایہ والنہایہ: ج ۸، ص ۱۳۵)

2۔ جامع ترمذی، ص ۲۴۷، ج ۲، طبع بیروت

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

## تابعین کی نظر میں

☆ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشہور تابعی ہیں جن کو بالاتفاق خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا ہے، اپنے عہد حکومت میں کسی کو کوڑے نہیں لگوائے مگر ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کی تھی اس کے متعلق آپ نے حکم دیا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں۔

☆ امام دارالکھیرہ سیدنا مالک بن انس رضی اللہ عنہ کا فیصلہ

عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَبْغَضَ الصَّحَابَةَ فَلَيْسَ لَهُ فِي

فِيهِ الْمُسْلِمِينَ حَقٌّ أَنَّهُ يُخْرَجُ بِذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ۔ 1

”جس شخص نے صحابہ سے بغض کیا، اس کا مسلمانوں کے مال میں کوئی حق

نہیں، کیونکہ وہ صحابہ کی وجہ سے جماعت المسلمین سے خارج ہے۔“

وَقَالَ أَيضًا مَنْ غَاظَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَهُوَ كَافِرٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ 2

”جو شخص اصحاب رسول پر غضب ناک ہو اوہ کافر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے کہ ان پر کافر غضبناک ہوتے ہیں۔“

☆ مشہور محدث فقیہ ولی اللہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

1۔ (الاستیعاب تحت اصحابہ: ص ۳۸۳ ج ۳ طبع مصر بالبداہ والنہایہ: ص ۱۳۹ ج ۸)

2۔ (شرح شفاء لعلی قاری: ج ۲ ص ۹۸)

سے سوال کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں کون افضل ہے؟ عبداللہ ابن مبارک غصے میں آئے اور فرمایا:

تم ان دونوں کی آپس میں نسبت پوچھتے ہو، خدا کی قسم! جو مٹی نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کی ناک کے سوراخ میں چلی گئی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔<sup>1</sup>

☆ جلیل القدر بزرگ حضرت معانی بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

بھلا ایک تابعی ایک صحابی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم ﷺ کے صحابی ہیں۔ ان کی بہن نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عقد میں تھیں، انہوں نے وحی خداوندی کی کتابت کی اور حفاظت کی اور پھر یہ حدیث پڑھی کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جس نے میرے اصحاب اور رشتہ داروں کو برا کہا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔<sup>2</sup>

1 (البدایہ والنہایہ: ج 8 ص 139)

2 (البدایہ والنہایہ: ج 8 ص 139)

## اکابر اہل سنت کے نظریات

☆ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نزاع میں مذہب اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں:

وَفِيهِ أَنْ أَصْحَابَ عَلِيٍّ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ عَلِيًّا هُوَ الْمَصِيبُ وَإِنْ كَانَ مُعَاوِيَةَ مُجْتَهِدًا وَهُوَ مَا جُورًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ 1

دو گروہوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ حق کے زیادہ قریب ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیب تھے، اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے اور آپ کو انشاء اللہ اجر ملے گا۔“

☆ اہل سنت و جماعت کے عظیم محدث حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ واضح فرماتے ہیں:

مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِمْ وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَتَأْوِيلُ قِتَالِهِمْ وَأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ مُنَاوِلُونَ لَمْ يَقْصُدُوا عَصِيَّةً وَلَا مَحْضَ الدُّنْيَا بَلِ اعْتَقَدَ كُلُّ فَرِيقٍ أَنَّهُ الْحَقُّ وَمُخَالَفُهُ بَاغٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ قِتَالُهُ



لِيَرْجِعَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ مُصِيبًا وَبَعْضُهُمْ مُخْطِئًا مَعذُورًا فِي  
 الْخَطَايَا لِأَنَّهُ بِإِلْجَاهٍ وَالْمُجْتَهِدُ إِذَا أَخْطَأَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَىٰ رِضَىٰ  
 اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنْهُ هُوَ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ الْخُرُوبِ ، هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَكَانَتْ  
 الْقَضَايَا مُشْتَبِهَةً حَتَّىٰ أَنْ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ تَحَيَّرُوا فِيهَا فَاعْتَزَلُوا وَلَوْ  
 يَتَّبِقُونَ الصَّوَابَ لَمْ يَتَأَخَّرُوا عَنْ مُسَاعَدَةِ ۱

اہل سنت اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ دونوں فرقوں کے بارے میں اچھا  
 گمان رکھا جائے اور ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا تھا، اسے بیان کرنے سے  
 اجتناب کیا جائے اور ان کے درمیان قتال کی تاویل کی جائے، وہ مجتہد تھے، صاحب  
 اجر بنے۔ انہوں نے محض دنیا کے حصول اور گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان میں سے  
 ہر فریق کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف باغی ہے۔

پس ان پر باغی کے خلاف جنگ ضروری ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے  
 امر کی طرف لوٹ آئیں، ان میں سے بعض اس مسئلہ میں حق پر تھے اور بعض خطا پر تھے  
 ، لیکن خطا میں معذور تھے، کیونکہ خطا اجتہادی تھی اور مجتہد جب خطا کرے اس پر کوئی  
 گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں میں حق پر تھے۔ یہ اہل  
 سنت کا مذہب ہے اور یہ مسائل مشتبہ امور میں سے تھے یہاں تک کہ صحابہ کرام  
 رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت ان میں متحیر ہو گئی اور وہ دونوں گروہوں  
 میں جدا ہو گئے اور انہوں نے قتال میں حصہ نہیں لیا اور انہیں درستی کا یقین

ہوتا تو حق کی مدد سے کبھی پیچھے نہ رہتے۔“

☆ اہل سنت و جماعت کے جلیل القدر محدث و فقیہ حضرت علامہ علی بن سلطان القاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا مذہب نقل فرماتے ہیں:

وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِخَيْرٍ يَعْنِي وَإِنْ صَدَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ بَعْضُ مَا هُوَ فِي الصُّورَةِ شَرُّ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَنْ اجْتِهَادٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ فَسَادٍ مِّنْ إِصْرَارٍ وَعِينَادٍ بَلْ كَانَ رُجُوعُهُمْ عَنْهُ إِلَى خَيْرٍ مَّعَادٍ بِنَاءً عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا وَلِذَلِكَ ذَهَبَ جَمَهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كُلُّهُمْ عَدُولٌ قَبْلَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَكَذَا بَعْدَهَا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَابِهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا۔

وَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ فِي الْعَيْدِ فِي عَقِيدَةٍ وَمَا نُقِلَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُ مَا هُوَ بَاطِلٌ وَكَذِبٌ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ صَحِيحًا أَوْلْنَا تَأْوِيلًا لِأَنَّ الثَّنَاءَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ سَابِقٌ وَمَا نُقِلَ مِنْ كَلَامٍ إِلَّا حَقٌّ مُّحْتَمَلٌ لِلتَّأْوِيلِ وَالْمَشْكُوكِ وَالْمَوْهُومِ لَا يَبْطُلُ الْمُحَقِّقُ وَالْمَعْلُومُ۔ 1

1 (شرح فقہ اکبر: ص ۸۷)

”ہم رسول اللہ ﷺ کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر خیر صرف خیر سے کرتے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض باتیں ایسی بھی صادر ہوئیں جو بظاہر شر ہیں، ایسی باتیں اجتہاد پر مبنی تھیں نہ کہ فساد کی بنا پر اور دشمنی کے لئے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ ان امور سے رجوع کر کے بہترین معاد کی طرف آگئے تھے۔ کیونکہ نبی اقدس ﷺ کا فرمان ہے: تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے اور نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو ان کی برائی بولنے سے رک جاؤ۔“

اس لئے جمہور علماء اس طرف گئے ہیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عادل ہیں اور ان کی یہ عدالت حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلقہ فتوؤں کے احوال سے قبل بھی تھی اور بعد میں بھی، اس لئے نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے: میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔“ اس کو داری اور ابن عدی وغیرہا نے روایت کیا ہے۔ ابن دقیق العید نے اپنے عقیدہ میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہماری طرف صحابہ کے اختلاف کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، اس میں کچھ تو سراسر جھوٹ ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا اور جو صحیح ہے ہم اس کی تاویل کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تعریف پہلے آچکی ہے اور جو بعد میں نقل کیا گیا ہے، اس میں تاویل کا احتمال ہے اور مشکوک اور موہوم بات تحقیق کو باطل نہیں کر سکتی۔“

☆ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر تاریخ کا کچرا پھینکنے والوں کے لئے محقق علی الطلاق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اصول بیان فرماتے ہیں۔

صحبت ایشان با پیغمبر علیہ السلام یقینی است و نقلہائے دیگر

ظنی و ظن با یقین معارض نگر دو یقینی با ظنی متروک نشد۔ 1

”صحابہ کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شرف صحابیت یقینی ہے اور ان کے

خلاف جو کچھ لکھا گیا ظنی ہے، اور ظن یقین کے معارض نہیں ہو سکتا اور یقین کو ظن کی وجہ

سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔“

☆ حضور غوث الثقلین، سلطان الاولیاء، سیدنا امام شیخ عبدالقادر جیلانی حسی

حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

”حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی

المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا

خلافت سے دستبردار ہو کر امیر خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپنا ان

سے ثابت و صحیح ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام سے رسول خدا

ﷺ کا وہ فرمان ثابت ہو گیا کہ جس میں حضور ﷺ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا

سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح

کروائے گا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کرنے سے حضرت امیر معاویہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت واجب ہو گئی، اس سال کا نام ”سن جماعت“ اس لئے رکھا گیا

کہ مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو گیا اور سب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کر لیا پھر کوئی تیسرا مدعی خلافت باقی نہ رہا۔۔۔ 1

### ☆ قطب ربانی حضرت مجدد الف ثانی

شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

امام مالک کہ از تابعین است و معاصر او اعلم علماء مدینہ شام معاویہ و عمرو بن العاص دا بقتل حلیم کردہ است چنانچہ بالا گزشت اگر او مستحق شتم نمی بود چرا حکم بقتل شام او می کرد پس معلوم شد کہ شتم او از کبائر دانستہ حکم بقتل شام او کردہ و ایضا شتم ابی بکر و عمرو و عثمان ساختہ است چنانچہ بالا گزشت پس معاویہ مستحق ذم و نگو ہمیش نباشد۔۔۔ 2

”امام مالک جو اجلہ تابعین میں سے ہیں اور ان کے معاصر ہیں اور مدینہ منورہ کے علماء میں سے بزرگ عالم ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن العاص کو گالی دینے والے کے قتل کا فتویٰ دیا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی گالی کے مستحق ہوتے تو پھر ان کے گالی دینے والے کے لئے قتل کا حکم کیوں دیا جاتا؟ لہذا معلوم ہوا کہ انہیں گالی

1۔ (غنیۃ الطالبین مترجم: ص 165)

2۔ (از مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصہ چہارم: مکتوب نمبر 251)

دینا امام مالک کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اسی لئے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گالی دینا ابوبکر صدیق و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی دینا ہے، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالی دیئے جانے اور برا کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔“

☆ اہل سنت و جماعت کے جلیل القدر محقق متکلم علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ كَبَارِ الصَّحَابَةِ وَنَجَبَائِهِمْ  
وَمُجْتَهِدِيهِمْ وَلَوْ سَلِمَ مِنْ صِغَارِهِمْ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ دَخَلَ فِي عُمُومِ  
الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي تَشْرِيفِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَلْ قَدْ  
وَرَدَ فِيهِ بِخُصُوصِهِ أَحَادِيثُ لِقَوْمِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا  
مُهَيَّبًا وَاهْدِهِ بِهِ رِوَاةُ التِّرْمِذِيِّ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ عَلِّمَ مُعَاوِيَةَ  
الْحِسَابَ وَالْكِتَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ رِوَاةُ أَحْمَدَ۔

وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي فَضْلِهِ حَدِيثُ مَحَلِّ نَظَرٍ وَكَانَ  
السَّلَفُ يَغْضِبُونَ مَنْ سَبَّهُ وَطَعَنَهُ وَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْوَتْرَ  
رُكْعَةً وَاحِدَةً فَقَالَ دَعُهُ، فَإِنَّهُ، فَقِيهُ صَحَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا فِي  
الصَّحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَسَبَّهُ رَجُلٌ عِنْدَ خَلِيفَةِ الرَّشِيدِ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ  
فَجَلَّدَهُ، وَقَالَ آخَرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَذِيذُ فَجَلَّدَهُ، وَقِيلَ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ عَبْدُ اللَّهِ  
ابْنُ الْمُبَارَكِ مُعَاوِيَةَ أَفْضَلُ أُمَّ عُمَرَ ابْنِ الْعَزِيزِ وَقَالَ غُبَارُ فَرَسٍ مُعَاوِيَةَ إِذَا غَزَا

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ عُمَرَوَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ الْمَالِكِي فِي الشَّفَاءِ  
قَالَ مَالِكٌ مَنْ شَتَمَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ أَوْ  
مُعَاوِيَةَ أَوْ عُمَرَ وَبْنَ الْعَاصِ فَإِنْ كَانُوا عَلَى كُفْرٍ أَوْ ضَلَالٍ قُتِلَ وَإِنْ شَتَمْتَهُمْ  
بِغَيْرِ هَذَا مِنْ مُشَاتِمَةِ النَّاسِ نُكِلَ شَدِيدًا۔ م 1

”یقیناً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں سے ہیں، آپ کا شمار نجباء اور مجتہدین صحابہ میں ہوتا ہے، اگر انہیں صغار صحابہ میں سے بھی تسلیم کیا جائے تو پھر بھی آپ یقیناً ان تمام احادیث صحیحہ کے مصداق ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت میں وارد ہوئیں، بلکہ خاص طور پر آپ کی شان میں بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”اے اللہ! معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور آپ کے ذریعے اوروں کو ہدایت دے۔“ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد اے اللہ! معاویہ کو حساب و کتاب کی تعلیم دے اور انہیں عذاب سے بچا۔“ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں، یہ محل نظر ہے۔ اسلاف اس شخص پر غضب کرتے تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا یا آپ پر تنقید کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر ایک رکعت ادا کیا، آپ نے فرمایا: ان پر تنقید نہ کرو، وہ ایسے فقیہ ہیں جنہیں حضور ﷺ کی صحبت نصیب ہوئی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز

م 1 (نبراس شرح العقائد: ص ۵۵۰)

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول اکرم ﷺ کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔

قاضی عیاض مالکی شفا میں فرماتے ہیں، جس نے نبی اکرم ﷺ کے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کو گالی دی تو دیکھیں گے کہ اگر اس نے ان حضرات کی نسبت گمراہی اور کفر کی طرف کی، تو قتل کیا جائے گا اور اگر اس نے کفر و گمراہی کے علاوہ لوگوں میں رائج گالی گلوچ میں سے کوئی گالی بکی، تو اسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔“

☆ شیخ الحدیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

باید دانست کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر ایک از اصحاب آنحضرت ﷺ بود و صاحب فضیلت جلیلہ و زمرۃ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین زنا در حق او سوء ظن نکنی و درود طہ سب او نہ افتی تا مرتکب حرام نشوی۔

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوهُمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنَوَافِقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدٍ وَلَا



نَصِيْفَه، وَأَخْرَجَ أَبُو دَوْدَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ أَنْ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعَظِيمَتَيْنِ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ لِمُعَاوِيَةَ اللَّهُمَّ عَلِمَهُ الْكِتَابُ وَمَكِّنْ لَهُ فِي الْبِلَادِ وَوَقِهِ الْعَذَابَ.

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرُو بْنِ سَعْدٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اهْدِيهِ وَعَقْلِي نِيْزَ دِلَالَتِي مِي كُنْتُ ذِيْرًا كَمَا أَزْطَرْفُ كَثِيْرًا مَعْلُومٌ شَدَّ كَمَا أَنْحَضَرْتُ ﷺ فَرَمُودَنْدُ فِي وَقْتِ مِنَ الْاَوْقَاتِ خَلِيْفَه خَوَامِدُ شَدَّ وَأَنْحَضَرْتُ ﷺ جَوْنَ شَفَقْتِ وَافْرَا بَرَامْتِ دَاشْتَنْدُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ يَا لِمُؤْمِنِيْنَ رَوْوَقٌ رَحِيْمٌ. بِسِ دَافْتِ كَامَلَهْ أَنَجْنَابِ ﷺ بِه نَسَبْتِ اَمْتِ اِقْتِضَا فَرَمُودُ كَمَا خَلِيْفَه اِبْشَانِ رَا دَعَا بِهْدَايْتِ وَابْتِدَاءِ نَمَايْدِ.

أَخْرَجَ الدِّيْلَمِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْهَبُ الْآيَامُ وَاللِّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ مُعَاوِيَةُ وَأَخْرَجَ الْآجِرِيُّ فِي كِتَابِ الشَّرِيْعَةِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا زِلْتُ فِي طَمَعٍ مِنَ الْخِلَافَةِ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ مَلَكَتِ فَأَحْسِنُ وَقَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَوَّلَ حَيْشٍ مِّنْ زَمَنِ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَانَ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ فِي جَيْشِهِ وَمَا

تَتْ بَعْدَ مَا خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ وَقَدْ اسْتَفَاضَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَكْتَبَ وَهُوَ لَا يَسْتَكْتِبُهُ إِلَّا عَدْلًا أَمِينًا وَقَدْ رَوَى الْآجِرِيُّ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَنَّ ذَلِكَ -

ومعاویہ بن ابی سفیان می گفتہ است بخلیفہ و  
لمکنی او منلوك الاسلام و سنجریون الملوك بعدی واذ  
شعرات شریفہ آنحضرت ﷺ چیزے باخود داشت وقت  
وفات و صبت نمود کہ آن داد در مناخر او بگذارند۔ 1

”جاننا چاہیے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب  
رسول میں سے ہیں اور زمرة صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں بڑے صاحب  
فضیلت ہیں، تم کبھی ان کے حق میں بدگمانی نہ کرنا اور ان کی بدگوئی میں مبتلا نہ ہونا  
، ورنہ تم حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے۔“

ابوداؤد نے ابوسعید سے روایت کی ہے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ  
نے فرمایا: میرے صحابہ کو برانہ کہو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان  
ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کی ایک  
مد بلکہ نصف مد خرچ کرنے کے ثواب کو نہ پہنچے گا۔

اور ابوداؤد نے ابوبکرہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ  
ﷺ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار

ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے میری امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروادے گا۔

اور ترمذی نے بروایت عبدالرحمن بن عمیر (جو اصحاب رسول ﷺ میں سے ہیں) نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ کے واسطے یہ دعا مانگی، یا اللہ! تو ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعہ سے دوسرے لوگوں کو ہدایت فرما۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے سلمہ بن مخلص سے روایت کی، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے یہ دعا کرتے ہوئے سنا خداوند! تو ان کو قرآن مجید کا علم عنایت کر اور ان کو ملکوں کی حکومت عطا فرما، اور ان کو عذاب آخرت سے بچالے۔

اور ترمذی نے بروایت عمیر بن سعد نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے: خداوند! تو ان کے ذریعہ سے دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔

اور روایت سے قطع نظر عقل بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ضروران کے لئے دعا کی ہوگی کیونکہ مختلف طرق روایت سے ثابت ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو معلوم تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نہ کسی وقت خلیفہ ہونگے اور چونکہ آپ ﷺ اپنی امت پر بہت زیادہ شفقت فرماتے

تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ تم پر حرص کرنے والا، ایمان والوں کے ساتھ مہربان، رحم دل“ لہذا آنحضرت ﷺ کی کمال محبت نے جو آپ کو امت کے ساتھ ہے، تقاضا فرمایا کہ آپ اپنی امت کے خلیفہ کے لئے ہدایت کرنے اور ہدایت پانے کی دعائیں فرمائیں۔

حضور پر نور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کا علم روایات ذیل سے واضح ہے:-

ویلیبی نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے، یہ دن رات ختم نہ ہونگے یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہو جائیں گے اور آجری نے کتاب الشریعہ میں عبد الملک بن عمیر سے روایت کی ہے، وہ کہتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں اس وقت سے خلافت کی خواہش رکھتا ہوں جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: اے معاویہ! اگر تم بادشاہ ہو جاؤ تو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور برروایت ام حرام صحیح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا اس کے لئے جنت واجب ہوگی اور سب سے پہلے سمندر میں بعد خلافت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا ہے اور ان کے اسی لشکر میں ام حرام رضی اللہ عنہا بھی تھیں جنہوں نے سمندر سے نکلنے کے بعد انتقال کیا۔

متعدد روایات سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاویہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنا منشی اور کاتب وحی بنایا تھا اور آپ اسی کو نائب بناتے تھے جو ذی عدالت اور امانت دار ہوتا تھا۔

اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے میں خلیفہ نہیں ہوں، بلکہ بادشاہانِ اسلام کا پہلا بادشاہ ہوں اور تم میرے بعد بادشاہوں کا تجربہ کرو گے۔ اس وقت میری قدر جانو گے اور آنحضرت ﷺ کے چند موئے مبارک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے بوقت وفات وصیت فرمائی تھی کہ یہ موئے مبارک میرے نھنوں میں رکھ دینا۔“

☆ مجدد مائتہ حاضرہ و سابقہ مؤید ملت طاہرہ

حضرت سیدنا امام احمد رضا خاں قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ترجمانِ ملتِ اسلامیہ، مذہبِ اہل سنت و جماعت ارقام فرماتے ہیں:

اللہ عزوجل نے سورہ حدید میں صحابہ سید المرسلین ﷺ کی دو قسمیں بیان فرمائیں، ایک وہ جو قبل فتح مکہ مشرف بایمان ہوئے اور راہِ خدا میں مال خرچ کیا، اور جہاد کیا اور دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد مشرف بایمان ہوئے، پھر فرمایا ”وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى“ دونوں فریق سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا، ان کو فرماتا ہے:

أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ - لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ  
 أَنفُسُهُمْ عَالِدُونَ - لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ  
 الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ -

”وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، اس کی بھنک تک نہ سنیں گے اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے، قیامت کی وہ سب سے بڑی گھڑی انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔“

رسول اللہ ﷺ کے ہر صحابی کی شان اللہ عزوجل بتاتا ہے، تو جو کسی صحابی پر طعن کرے اللہ تعالیٰ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے اور ان کے بعض معاملات، جن میں اکثر حکایات کا ذبہ ہیں انہیں ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں، رب تعالیٰ عزوجل نے اسی آیت مبارکہ میں ان کا منہ بھی بند کر دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا: وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرو گے۔ بایں ہمہ میں تم سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا، اس کے بعد جو کوئی بکے، اپنا سر کھائے، خود جہنم میں جائے گا۔

علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض میں فرماتے ہیں:-

وَمَنْ يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ - فَذَاكَ مِنْ كِلَابِ الْهَٰوِيَةِ -

”جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے، وہ جہنمی کتوں میں

سے ایک کتا ہے۔“<sup>1</sup>

☆ محدث اہل سنت حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ الوری رحمۃ اللہ علیہ امیر

حزب الاحناف لاہور لکھتے ہیں:

1 (احکام شریعت ص ۱۱۹ طبع لاہور)

انہیں نہ خوف ہے اور نہ غمگین ہونگے، یہی ہیں جنت والے، ہمیشہ رہیں گے اس میں بعوض اپنی نیکی کے، کیا اس کے مصداق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں ہو سکتے؟ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی نہیں، بلکہ بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فقہاء صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ لوگوں کو ان کی یعنی امیر معاویہ کی ادنیٰ شکایت سے بھی منع کرتے اور انہیں فقہاء صحابہ میں شمار کرتے تھے۔ چنانچہ مناقب صحابہ میں امام بخاری صحیح بخاری شریف میں نقل فرماتے ہیں: حضرت ابو ملیکہ سے مروی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد عشاء حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد شدہ غلام کے سامنے ایک رکعت وتر ادا کی، انہوں نے سید المفسرین حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا تذکرہ کیا تو ابن عباس نے فرمایا: انہیں چھوڑ دو، وہ حضور ﷺ سے صحبت یافتہ ہیں۔ پھر دوسری سند سے نقل کرتے ہیں، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر فقیہ صحابی حضرت معاویہ کو مجتہد مان کر ان پر اتنا اعتراض بھی روا نہیں رکھتے، پھر کس طرح یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ اقوال مؤرخین کی بنا پر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ لب کشائی کریں؟ 1۔

محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار

احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک تحقیق یہ ہے:

”حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس ﷺ کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہونے کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ کے رشتہ میں سالاے ہیں جب وحی کی کتابت کے لئے رسول اکرم ﷺ نے کاتب کی ضرورت محسوس کی تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بابت حضرت جبریل امین علیہ السلام سے مشورہ لیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ! امیر معاویہ کو کاتب وحی بنا لیجئے۔ کیونکہ یہ امانت دار شخص ہے۔“

ایک دفعہ سید عالم ﷺ کی سواری پر آپ کے پیچھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، امیر معاویہ کا پیٹ رسول اقدس ﷺ کی جسم نازنین سے مس کر رہا تھا۔ آپ نے اس وقت ان کے لئے دعا فرمائی، اے اللہ! معاویہ کو حساب و کتاب کی تعلیم دے اور عذاب سے بچا اور شہروں کی بادشاہی بخش دے۔ دعائیہ کلمات میں یہ بھی وارد ہے کہ اے اللہ! معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اسے ہدایت پر رکھ اور اس کے ذریعہ سے اور لوگوں کو ہدایت دے۔ اسے عذاب سے بچا۔ یہ بھی مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا: اے معاویہ! تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ پھر دست اقدس کی دو انگلیوں کو درمیانی اور ساتھ والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: جنت میں داخل ہوتے



وقت جنت کے دروازے پر میں تجھ سے اور تو مجھ سے اس طرح ملے ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ہذہ الروایات مذکورۃ فی السیرۃ الحلبیۃ۔ م۔ 1

☆ شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک فتویٰ:

اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت علی جمیع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے اس اجماع کا منکر شذنی النار کی وعید کے تحت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب مسلم الثبوت ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا التزام کفر نہیں تو لزوم کفر میں ضرور داخل ہے۔ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی کی انہوں نے سب و شتم کرائے یا کرتے تھے سراسر غلط، ضلالت اور جہالت پر مبنی ہے۔ جو نضر بن مزاحم، یونس بن خباب اور مرحوب وغیرہ جیسے رافضیوں کی روایات پر مبنی ہے۔ فرمان ذیشان آنحضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ اللہ فی اصحابی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں ان کو برا نہ کہو۔ کوئی مسلمان نہیں بھول سکتا۔

فقط واللہ تعالیٰ ورسولہ الاعلیٰ ﷺ اعلم

1۔ (ہفت روزہ محبوب حق لاہور: ص ۲ ج ۱ شمارہ ۲۴ فروری ۱۹۶۳ء)

(محمد قمر الدین میالوی غفرلہ ضلع سرگودھا پاکستان ۱۰  
رمضان المبارک ۱۳۸۹ء بحوالہ کتاب فضائل امیر معاویہ، طبع  
لاہور، ص ۴۹، مصنف علامہ غلام محمود ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

## ☆ غزالی زماں حضرت علامہ احمد سعید کاظمی

### رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف کا فتویٰ

”سیدنا صدیق اکبر و سیدنا و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفصیل جمیع صحابہ  
کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس  
عقیدہ کا مخالف سنی نہیں ہے، اس کی اقتداء جائز نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی  
اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق کہنے والا ہرگز سنی نہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم  
اجمعین اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق واجب الاحترام ہیں، اس لئے ایسے شخص کی  
اقتداء بھی درست نہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق کہتا ہے۔“

(سید احمد سعید غفرلہ ۱۹ اگست ۱۹۶۹ء، فضائل امیر معاویہ، طبع لاہور ص ۴۷)

### مفسر قرآن حکیم الامت حضرت

علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ :-

”حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق  
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل بتانے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

فاسق کہنے والا شخص بالکل بے دین ہے۔“

(فقیر احمد یار خان بدایونی نعیمی گجرات، پاکستان ۱۹۶۹-۱۰-۲۳)

## ☆ آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کا فتویٰ

و تفضیل شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمیع اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے اس کے خلاف کرنے والا بدعتی ہے، جس کی امامت مکروہ ہے اور کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیق و توہین مسلک اہل سنت کے خلاف اور بدعت ہے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عادل و صالح ہونے کے لئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت تفویض کرنا بین ثبوت ہے۔ ورنہ فاسق کو تفویض خلافت کرنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شایاں شان نہیں ہے۔

(کتبہ فیض احمد مقیم آستانہ عالیہ گولڑہ شریف الجواب صحیح محمد فاضل چشتی آستانہ عالیہ گولڑہ شریف-1)

حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مصطفیٰ کریم ﷺ کے جلیل القدر صحابی اور مٹھی ہیں، حدیث کی مشہور و معروف کتاب مشکوٰۃ شریف میں ہے جس کے آخر میں حضرت محدث شیخ ولی الدین عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کرنے والے چند صحابہ کرام کی ایک مختصر فہرست شائع کی ہے اس فہرست میں حرف الہیم، فصل فی الصحابہ کا ایک عنوان قائم کیا ہے۔ اس فصل میں ان صحابیوں کا بیان ہے

جن کے نام کا پہلا حرف میم ہے۔ اس عنوان کے نیچے حضرت محدث ولی الدین تحریر کرتے ہیں، ”معاویہ بن ابوسفیان رسول اللہ ﷺ کے منشی بھی تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ سے سرکار مصطفیٰ کریم ﷺ کی حدیثیں سنی ہیں“

اسی حوالہ سے دن دوپہر کی طرح خوب واضح ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس ﷺ کے صحابی ہیں اور حضور ﷺ کے دربار کے منشی بھی ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مان کر ان سے حضور ﷺ کی حدیث سنی اور قبول کی ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے متعلق اعلان فرماتا ہے ”وَكَلَّمَ وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى“ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سرکار مصطفیٰ کریم ﷺ اپنے صحابیوں کے حقوق بیان کرنے کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں:

إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ. 1

یعنی اے مسلمانو! جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابیوں کو برا کہتے ہیں

انہیں بر ملا کہہ دو کہ تمہاری بد گوئی پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑے۔“

یہ حقوق تو تمام صحابیوں کے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو

ایک جلیل القدر فقیہ صحابی ہیں، ان کے حقوق تو اور زیادہ ہیں اور ان کی شان جلالت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ ۴۱ھ میں شہزادہ رسول حضرت سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سارے جہان کے مسلمانوں کا خلیفہ اور حاکم اعلیٰ بنایا اور خود ان کے دستِ حق پرست پر بیعت فرمائی اور شہزادہ اصغر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونا، ان کی زندگی میں تسلیم فرمایا۔

یہ واضح رہے کہ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جنہوں نے راہِ حق میں شہید ہونا تو منکور فرمایا مگر یزید پلید فاسق و فاجر کی باطل طاقت و خلافت تسلیم نہ فرمائی۔ اب اس کے بعد جو شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے یا آپ کی خلافت کو حق نہ مانے، وہ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹنا، واد شمن اور باغی قرار پائے گا۔

ہندوستان اور پاکستان کے تمام سنی مسلمانوں کی مستند کتاب بہارِ شریعت حصہ اول ص ۷۳ میں ہے۔

”تمام صحابہ کرام اہل خیر و صلاح اور عادل ہیں۔ ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ کیا جائے، کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت (براگمان رکھنا) بد مذہبی و گمراہی و استحقاقِ جہنم ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے ساتھ بغض ہے، ایسا شخص رافضی ہے، اگرچہ چاروں خلفاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مانے اور اپنے کو سنی

کہے، مثلاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابوسفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اسی طرح حضرت سیدنا عمرو بن العاص، حضرت منیرہ بن شعبہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کی شان میں گستاخی تہرا ہے اور اس کا قائل ہٹ کر رافضی ہے۔<sup>1</sup>



<sup>1</sup> فتاویٰ فیض الرسول برائے شریف اظہار (مفتی غلام غوث قادری یکم صفر المظفر ۱۳۹۳ھ)

(الجواب صحیح، بدرالدین احمد قادری رضوی)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

پر مطاعن کا تحقیقی رد

صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دشمنوں اور گستاخوں نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف الزامات اور اعتراضات پر مشتمل کتابچہ کا جو نام رکھا ہے، وہ اس طرح ہے۔

”اہل سنت والجماعت کا امیر معاویہ کے بارے نظریہ“

اہل علم قارئین سے مخفی نہیں کہ اہل سنت والجماعت لکھنا اردو اور عربی قواعد کی ترکیب کے اعتبار سے درست نہیں ہے، جن بیچاروں سے اہل سنت وجماعت کا نام بھی درست نہ لکھا جائے، وہ اہل سنت وجماعت کا مسلک کیا بیان کریں گے؟ اور اخلاقی جرأت کا عالم بھی دیکھیں کہ کتابچہ پر مصنف کا نام اور ناشر کا کوئی اتہ پتہ بھی نہیں لکھا، جن لوگوں کی یہ ذہنیت ہو، ان سے کسی مستند اور معتمد و معتربات کی توقع رکھنا عبث ہے۔ اب کتابچہ میں اٹھائے گئے اعتراضات اصل عبارت کے ساتھ ترتیب وار درج کئے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جوابات بھی۔ اعتراض کو ”سواس الخناس“ اور جواب کو ”بیان العرفان“ کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے۔

سواس الخناس:-

اہل سنت کا نام استعمال کر کے اپنی دوکان چکانے والے لوگ صحابہ کے متبرک نام کو بدنام کرنے کے لئے معاویہ جیسے افراد کو فہرست میں شامل کر کے توہین

صحابہ کی قسم اٹھائے ہوئے ہیں۔

بیان العرفان:-

وسواس الخناس نے اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نقل نہیں کی، جس سے ظاہر ہوا کہ خود اس کے نزدیک بھی اعتراض کی حیثیت وسواس الخناس سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا از سلف تا خلف کوئی بھی مسلمان منکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فتح مکہ کے دن ایمان لانے والوں کو جنتی قرار دیا گیا جامع ترمذی میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ہادی و مہدی ہونے کی دعا فرمائی ہے۔

ائمہ محدثین، کتب سیرت، تاریخ کی سب معتبر کتب، صحابہ کرام کی ساری جماعت، حضرات تابعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے معترف ہیں نیز شیعہ کتب نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک سابق صفحات میں لکھا جا چکا ہے کہ ہمارا ان کا دین ایک ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خلافت تفویض کی، ان کی بیعت کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی تعریف فرماتے ہیں، تابعین ان کے مداح ہیں اولیاء کاملین (جن میں حضرت داتا گنج بخش حضور غوث الثقلین، حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی، امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر ہیثمی، حضرت مجدد الف ثانی، شیخ



عبداللہ بن مسعود، امام عبدالوہاب شمرانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام احمد رضا خاں بریلوی، امام یوسف بن اسماعیل المنہجانی، علامہ عبدالعزیز پرہاروی، رحمہم اللہ تعالیٰ (حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے قائل اور ان کی مدحت میں رطب اللسان ہیں۔ تفصیلی حوالہ جات گزشتہ اوراق میں موجود ہیں۔ کیا ان سب نے صحابہ کی توہین کی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی و رسول کہا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ کہنا پڑے گا کہ ایسی واہی عبارت لکھنے والا انسانیت کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ ہے اور ایسے شخص کو انسان سمجھنا انسانیت کی تذلیل اور توہین ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: میری امت کے سب سے بدتر وہ

لوگ ہیں جو میرے صحابہ کے حق میں بے باک ہیں۔ (ابن عدی)

وسواس الخناس:-

بخاری جیسے عظیم محدثین سے پوچھ لیں کہ آپ نے فضائل صحابہ کے باب

میں معاویہ کا نام کیوں مناسب نہیں جانا۔

بیان العرفان:-

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور دربار رسالت میں

کاتب کے منصب پر فائز تھے، امر سنت و جماعت کی عقائد و کلام کی کتب میں متفق

علیہ فیصلہ موجود ہے کہ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ بعد کا بڑے سے بڑا منصب بھی

شرف صحابیت کے سامنے ہیج ہے۔ وسواس الخناس کی عبارت سے یوں معلوم ہوتا ہے

کہ اس کے نزدیک صحابی کو صحابیت کا شرف بھی تب حاصل ہوگا، جب امام بخاری

رحمۃ اللہ علیہ ان کی فضیلت کا ذکر کریں گے، یا اللعجب۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب کے تحت ذکر معاویہ کا باب قائم کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ملیکہ کی روایت کے مطابق اپنی مسند میں حضرت معاویہ فقیہ ہیں، صحابی رسول ہیں، اور ام حرام کی یہ روایت کہ حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے پہلے امیر البحر ہیں، جن کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جنت کی خوشخبری دی ہے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آٹھ حدیثیں صحیح بخاری میں درج کی ہیں، جو کہ علم حدیث کے طلباء سے مخفی نہیں حالانکہ امام بخاری کی شرط یہ ہے کہ وہ صرف ایسے شخص سے روایت کرتے ہیں جو ثقہ ہو، ضابط ہو، صدق ہو، یعنی انتہائی سچا ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم ﷺ کی ایک سو تریسٹھ احادیث مروی ہیں اور آپ سے حدیث روایت کرنے والوں میں حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت معاویہ بن خدیج، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سائب بن یزید، حضرت نعمان بن بشیر جیسے صحابہ اور محمد بن سیرین، سعید بن المسیب، علقمہ بن وقاص، ابو اوریس الخولانی اور عطیہ بن قیس جیسے تابعین شامل ہیں۔ 1

یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ حضور نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوالا کھ صحابہ میں سے کتنے ہیں جن کا ذکر امام بخاری نے باب فضائل میں کیا ہے، اگر یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے موجب قدح ہے تو یہ قدح سب صحابہ

کے لئے ہوگی جن کا ذکر امام بخاری نے باب فضائل میں نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت جبیر بن معظم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل مبارکہ کو ”ذکر فلاں“ کے عنوان سے ہی بیان کیا ہے، کیا یہ سب حضرات مطعون ہونگے؟

وسواس الخناس:-

کیا اہل سنت کے مایہ ناز عالم سنن نسائی کے مؤلف امام نسائی کے قتل کا سبب یہی نہیں تھا کہ اصرار کیا گیا کہ معاویہ کے فضائل بیان کرو، مگر انہوں نے موت قبول کر لی اور کہا کہ میں نے معاویہ کی کوئی فضیلت جو حدیث صحیح میں موجود ہو، نہیں دیکھی۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کی فقط یہ حدیث سنی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: خدا تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے“ اور اس حدیث کے بیان پر امام نسائی کو اتنا مارا گیا کہ آپ انتقال فرما گئے۔

بیان العرفان:-

یہ واقعہ جن کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے، بغیر ثبوت کے اخباری طرز پر لکھا گیا ہے۔ ایسی بے سند حکایات کو بنیاد بنا کر صحابی رسول ﷺ پر طعن کرنا کسی طور بھی جائز نہیں۔ بالفرض! واقعہ ایسا ہی ہو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے دو سو سال بعد واقعہ میں انہیں کس طرح مطعون کیا جاسکتا ہے؟ پھر محدث جلیل ابو عبدالرحمن احمد نسائی جیسے جید عالم دین سے (جنہوں نے خود صرف شرف صحابیت سے جہنم سے آزادی کی روایات کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے) صحابی رسول کے بارے میں

ایسے نامعقول رویہ کی توقع بھی نہیں کی جاسکتی اور اس حکایت میں امام نسائی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث ”لَا أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَهُ“ کا حوالہ دیا، واقعہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے باعث برکت و رحمت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَيُّهَا أَحَدِ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ أَنْ يُجْعَلَهَا لَهُ، طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يَقْرُبُهُ، بِهَا مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 1

”میں اپنی امت میں سے جس غیر مستحق کے لئے دعائے ضرر کروں، اس دعا کو اس کے لئے پاکیزگی اور رحمت اور ایسا قرب بنا دے جس کے ساتھ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔“

امام ابوداؤد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل فرماتے ہیں:-  
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَطَبَ فَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي سَبَّتُهُ، سَبَّتُهُ أَوْ لَعْنَتُهُ، لَعْنَةٌ فِي غَضَبِي فَإِنِّي أَنَا ابْنُ وُلْدِ آدَمَ أَغْضَبُ كَمَا تَغْضَبُونَ وَإِنَّمَا بَعَثْتَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَوةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 2

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں یہ فرمایا کہ میری امت میں سے جس شخص کو میں سب کروں، یا اس پر لعنت کروں غصہ کی حالت میں، تو بلاشبہ میں اولاد آدم

1۔ (صحیح مسلم: کتاب البر والصلہ والادب)

2۔ (ابوداؤد ج ۲ کتاب السنہ)

علیہ السلام میں سے ہوں۔ جس طرح تمہیں غصہ آتا ہے اسی طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اس سب کو ان کے لئے قیامت کے دن رحمت بنا دے۔

جس حدیث کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنا چاہتا ہے وہ تو ان کے لئے باعث رحمت ہے، نہ صرف آخرت میں، بلکہ دنیا میں بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیع و عریض ملک کے متفق علیہ خلیفہ بنے اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ پھیلتا ہوا قبرص، روڈس، سوڈان تک چلا گیا اور بیت المال سے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جنتی جوانوں کے سردار مالا مال ہوتے رہے، یہ ہے ”لَا أَشْبَعُ اللَّهُ بَطْنَهُ“ کا مبارک انجام کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دو سخا کا منبع بن گئے۔

وسواس الخناس :-

معاویہ کے بارے میں باغی اور قاتل جیسے الفاظ سے اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور طبری، ابن کثیر، ابن اثیر اور شاہ عبدالعزیز جیسے مورخین کو آپ اہل سنت کی فہرست سے نکال تو سکتے، اگر عربی نہ جاننے کی وجہ سے ان کتابوں تک کوئی نہ پہنچ سکا تو اردو میں لکھنے والے صائم چشتی اور موودوی جیسے افراد سے بھی ہزار اختلاف سہی مگر اہل سنت ہی کہلاتے ہیں۔ ان کی کتابوں کا کسی غیر کو کیا جواب دو گے۔

بیان العرفان :-

اہل سنت و جماعت کی کتابیں جو باغی اور قاتل جیسے الفاظ سے بھری پڑی

ہیں آخر وسواس الخناس اس میں سے کچھ تو نقل کرتا تا کہ اس کی مہربانی سے ہی ہماری ان کتابوں تک رسائی ہو جاتی ہم نے تو ان کتابوں میں باغی اور قاتل نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے جنگ صفین کے ذکر میں مجتہد اور ماجور کے الفاظ دیکھے ہیں، خناس صاحب اب بھی آنکھیں کھول کر پڑھ لیں۔

وَإِنْ كَانَ مُعَاوِيَةُ مُجْتَنِبًا وَهُوَ مَا جُورَ إِنْشَاءَ اللَّهِ۔ 1

”حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس اجتہاد

پر انہیں ثواب بھی ملے گا۔“

شاہ عبدالعزیز جیسے مؤرخ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اصحاب جمل اور اصحاب صفین کے عمل کو خطائے اجتہادی لکھنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ

”اصحاب صفین کے بارے میں توقف و سکوت لازمی ہے۔ ان آیات و احادیث کے عموم پر نظر رکھتے ہوئے جو فضائل صحابہ میں وارد ہیں، بلکہ تمام مؤمنین کے فضائل میں ان کی نجات اور ان کی شفاعت کی امید پروردگار عزوجل سے رکھنے کا حکم ظاہر کرتی ہے۔ 2۔“

ہم طبری ابن کثیر وغیرہ کو بقول تمہارے اہل سنت کی فہرست سے نکال نہیں سکتے مگر ابو مخنف زرارہ، یونس بن مزاحم اور مرحوب جیسے عالی شیعوں کی روایات جن

1۔ (البدایہ والنہایہ ابن کثیر: ص ۲۶۹ ج ۷)

2۔ (تحفة اثنا عشریہ: ص ۶۱۳ طبع کراچی)

سے کتابیں بھری پڑی ہیں، ان پر آنکھیں بند کر کے اعتماد بھی نہیں کر سکتے، لیجئے جمل و صفین کے حالات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی شخصیت میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک آپ کے مودودی صاحب کے امام و پیشوا ابن تیمیہ کی کتاب سے حاضر ہے۔ اسحاق بن راہویہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سَمِعَ عَلِيٌّ يَوْمَ الْجُمَلِ وَيَوْمَ الصِّفِّينِ رَجُلًا يَغْلُوا فِي الْقَوْلِ فَقَالَ  
وَلَا تَقُولُوا إِلَّا خَيْرًا إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ زَعَمُوا أَنَا بَغِينًا عَلَيْهِمْ وَزَعَمْنَا أَنَّهُمْ بَغَوْا  
عَلَيْنَا فَقَاتَلْنَا هُمْ - 1

”حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل و صفین کے موقع پر ایک شخص کو سنا، وہ مقابل لشکر پر باغی و قاتل کے فتوے لگا رہا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا: ان حضرات کے بارے کلمہ خیر کے سوا کوئی بات نہ کہو دراصل ان حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی۔ اس بنا پر ہم ان سے لڑتے ہیں۔“

کیوں خناس صاحب! آپ کی فکر ٹھکانے آئی کہ نہیں؟ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفین کو باغی نہ کہیں تو آپ مدعی ست گواہ چست کے مصداق ہیں کہ نہیں؟ جن دو آدمیوں کی کتابیں دیکھنے کا مشورہ ہمیں آپ دے رہے ہیں، ذرا سا ان کو بھی دیکھتے جائیں اول الذکر صائم صاحب کو تو اہل سنت میں ایک شاعر سے زیادہ حیثیت حاصل نہیں، سنی، مدرس، محقق، مفتی، مفکر کسی بھی زمرہ میں ان کا

شمار نہیں ہے اور ثانی الذکر مودودی صاحب جیسے بے پیند کے لوٹے کو اگر آپ سنی کہنے پر مصر ہیں تو فوراً یزید کے ایصالِ ثواب کی محفل کا اہتمام کریں، کیونکہ انہوں نے ابو یزید محمد دین بٹ کی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دشمنی میں لکھی ہوئی رسوائے زمانہ کتاب رشید ابن رشید پر تقریظ لکھی ہے، جس میں یزید کو دعائے مغفرت کا مستحق لکھا ہے۔

ہم سابقہ ابحاث میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے بارے میں محض تاریخی حوالوں سے بحث کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا کسی طور پر درست نہیں ہے، پھر تاریخ کے اس کچرے سے جس پر آپ ہمیں اتنا اعتماد کرنے کا درس دے رہے ہیں، آپ کو سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خروج اور بغاوت کے الفاظ مل جائیں گے۔ تو کیا کوئی ایماندار محض تاریخ کی کتابوں پر اعتماد کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں تاریخ میں چونکہ امام پاک کے خلاف خروج و بغاوت کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں لہذا وہ خارجی یا باغی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

وسواس الخناس :-

مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کے صفحہ ۱۳۶ کی عبارت پیش

خدمت ہے، لکھتے ہیں:

”جب صفین کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نص صریح سے یہ

بات کھول دی کہ فریقین سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت



عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی فوج میں شامل تھے، معاویہ کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، حضرت عمار کے متعلق نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد مشہور و معروف تھا اور بہت سے صحابیوں نے اس کو حضور ﷺ کی زبان مبارک سے سنا تھا، آپ نے فرمایا: عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔<sup>1</sup>

امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الجہاد باب المسح الغبار اور کتاب الصلوٰۃ باب التعاون فی بناء المسجد میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عمار کو فرمایا: تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ گروہ انہیں آگ کی طرف بلائے گا۔

بیان العرفان:-

مناظرہ مانچسٹر میں فریق مخالف کے مناظر کی بڑی دلیل جس نے اسے بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا تھا یہی دلیل تھی ہم کہتے ہیں یہ محض الزام ہے اور اس الزام کے جواب میں مستقل کتاب لکھے جانے کی ضرورت ہے۔ مگر یہاں اختصار ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند باتیں لکھی جاتی ہیں:

پہلی بات کہ یہ الزام اس وقت صحیح ہوگا جب اس کی کوئی تاویل نہ کی جاسکتی ہو لیکن یہ اگر صحیح نہ ہو تو پھر اس سے استدلال درست نہ ہوگا۔

وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ ضَعْفًا لِيَسْقُطَ الْإِسْتِدْلَالُ بِهِ۔

اور چونکہ اس کی سند میں ضعف ہے اس لئے اس روایت سے استدلال ساقط ہو گیا

1۔ (بحوالہ بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی، مسند احمد اور ابوداؤد)

رہی یہ بات کہ ابن حنان نے روایت بخاری کی توثیق کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی توثیق، اس کی تضعیف کرنے والے حضرات کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابن حنان توثیق میں بہت سست شمار ہوتے ہیں۔<sup>1</sup>

اس حدیث کی سند میں مندرجہ ذیل راوی ہیں۔ مسدود، عبدالعزیز بن مختار، خالد الخداء اور عکرمہ، ان پر علماء حدیث کا تبصرہ ملاحظہ کیجئے:-

(۱) مسدود:- امام ذہبی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ قَالَ الْقَطَّانِيُّ فِيهِ تَسَاهُلٌ "قطانی نے کہا، مسدود میں تساہل پایا جاتا ہے۔"<sup>2</sup>

اور محدثین کے نزدیک تساہل کی صفت روایت کو ناقابل اعتبار ٹھہراتی ہے۔

(۲) عبدالعزیز بن مختار:- امام ذہبی لکھتے ہیں، احمد بن زہیر کہتے ہیں إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ۔ "وہ کچھ بھی نہیں۔"<sup>3</sup>

شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ابن ابی خثیمہ، ابن معین سے روایت

کرتے ہیں کہ لَيْسَ بِشَيْءٍ۔ یہ کچھ بھی نہیں۔<sup>4</sup>

(۳) خالد الخداء:- امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ابو حاتم نے کہا۔ لَا يُحْتَجُّ بِهِ۔ "یہ قابل

احتجاج نہیں ہے" امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابن علیہ سے اس حدیث کے متعلق

دریافت کیا گیا، کہ خالد اس کی روایت کرتا رہا اور ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں

دی۔ ضَعَّفَ ابْنُ عَلِيَّةٍ أَمْرَ خَالِدٍ۔ "ابن علیہ نے خالد کو ضعیف کہا ہے۔"<sup>5</sup>

1۔ (تطهير الحنان: ص ۳۵)

2۔ (میزان الاعتدال: ص ۱۶۲، ج ۲) 3۔ (تہذیب التہذیب: ص ۳۰۶، ج ۶)

4۔ (میزان الاعتدال: ص ۱۳۹، ج ۲) 5۔ (میزان الاعتدال: ص ۳۰۱، ج ۱)

(۳) عکرمہ مولا بن عباس :- اس کا نام عکرمہ البریری ابو عبد اللہ المدنی مولا ابن عباس ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

، مکی بکاء کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو اپنے شاگرد نافع سے یہ کہتے ہوئے سنا:  
اے نافع! تجھ پر افسوس، اللہ سے ڈرو۔ لَا تَكْذِبْ عَلَيَّ كَمَا كَذَبَ عِكْرَمَةُ عَلَيَّ  
ابن عباس۔ ”مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا جیسا کہ عکرمہ نے ابن عباس پر باندھا ہے۔“<sup>1</sup>  
امام ذہبی لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن حارث علی بن عبد اللہ بن عباس کے پاس گئے تو دیکھا  
کہ عکرمہ دروازے پر بندھا ہوا ہے، تو میں نے ان سے کہا اللہ کا خوف کریں تو انہوں  
نے کہا اِنَّ هَذَا لَخَبِيْثٌ يَّكْذِبُ عَلَيَّ اَبِيْ۔ یہ خبیث میرے والد پر جھوٹ باندھتا  
ہے۔ مصعب بن زبیر نے کہا کہ كَانَ عِكْرَمَةُ يَرَى رَاىَ الْخَوَارِجِ۔ ”عکرمہ  
خوارج کا نظریہ رکھتا تھا“<sup>2</sup>

اس تفصیل سے زیر بحث حدیث کے زوات کی اصلیت و حقیقت اور سیرت و  
کردار واضح ہو گیا ہے جو راوی ناقابل اعتبار، لیس بشیء، ناقابل احتجاج، غیر  
ثقة، جھوٹے اور خارجی ہوں تو ان کی روایت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے  
خلاف استدلال کیسے کیا جاسکتا ہے؟ موذوی نے اس حدیث کے روایت میں ایک  
نام حضرت ابویوب انصاری کا بھی نقل کیا ہے (خلافت و ملوکیت ص ۱۳۷)  
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے پوری سند کے ساتھ اس روایت کو نقل

۱۔ (تہذیب التہذیب: ص ۲۶۰ ج ۷)

۲۔ (میزان الاعتدال: ص ۳۰۸)

کر کے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ علامہ سیوطی اس روایت کے آخر میں لکھتے ہیں:

مَوْضُوعٌ وَالْمُعَلَّى مَتْرُوكٌ يَضَعُ وَأَبُو أَيُّوبَ لَمْ يَشْهَدْ صِفِّينَ۔ 1

”یہ من گھڑت روایت ہے کیونکہ اس روایت کی سند میں المعلى بن عبد الرحمن ایسا

راوی ہے جس کی روایت کو متروک کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپنی طرف سے حدیثیں وضع کرتا تھا

، دوسری بات کہ ابو ایوب انصاری جو اس روایت میں مرکزی کردار ہیں سرے سے جنگ

صفین میں شامل ہی نہیں ہوئے اور غیر جانبدار صحابہ کے گروہ میں شامل رہے۔“

علامہ ابن حجر عسقلانی، معلى بن عبد الرحمن کے متعلق لکھتے ہیں:

”یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اسے موت کے وقت استغفار کے لئے کہا گیا تو

اس نے کہا، مجھے اپنی مغفرت کی کوئی امید نہیں، کیونکہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ستر حدیثیں گھڑی ہیں۔“ 2

صحیح بخاری کی زیر بحث حدیث میں دو مضمون بیان ہوئے ہیں ایک ”تَقْتُلُهُ

الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ“ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور دوسرا یہ ”يَدْْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ

وَيَدْْعُوْنَهُ إِلَى النَّارِ“ وہ تو باغی گروہ کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور باغی گروہ

انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ دوسرا جملہ فی الواقع اگر آپ ہی کا ارشاد ہے تو اس جملے

کا تعلق حضرت عمار کے ابتدائی اور آزمائشی دور کے ساتھ ہے، جسے راویوں نے اپنی

کرشمہ ساز یوں سے جنگ صفین کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ صحیح

1 (کتاب اللہی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة: ص ۲۴۱)

2 (تہذیب التہذیب: ص ۲۳۸)

بخاری کے اصل متن یا نسخے میں موجود ہی نہیں، اسے بعد میں کسی راوی نے اپنی مخصوص ذہنیت کے پیش نظر اصل حدیث کا حصہ بنا دیا۔

علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مذکورہ الفاظ کی زیادتی حمیدی نے اپنی جمع میں ذکر نہیں کی اور کہا کہ بخاری نے اسے بالکل ہی ذکر نہیں کیا اور یونہی ابو مسعود نے بھی کہا کہ حمیدی کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بخاری کو یہ زیادتی ملی ہی نہ ہو لیکن جان بوجھ کر اسے حذف کر دیا ہو۔ ہاں! اسما عیسیٰ اور برقانی نے اس حدیث میں مذکورہ زیادتی کی ہو۔ میں کہتا ہوں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اسے جان بوجھ کر حذف کیا ہے اور ایسا انہوں نے ایک بار یک نقطے کی بنا پر کیا ہے، وہ یہ کہ ابو سعید خدری نے یہ اعتراف کیا کہ یہ زیادتی میں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نہیں سنی، فَذَلَّ عَلٰی اَنْهَا فِیْ هٰذِهِ الرَّوٰیۃِ مُدْرَجَةٌ۔ تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مذکورہ زیادتی اس روایت میں بعد میں درج کی گئی اور جس روایت میں یہ زیادتی ذکر کی ہے وہ بخاری کی شرط پر پوری نہیں اترتی، اس زیادتی کو بزار نے داؤد بن ابی ہندان ابی نذرہ عن ابی سعید کی سند سے ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث مسجد کی تعمیر میں ایک ایک اینٹ اٹھاتے وقت ذکر ہوئی اور اس میں بھی ہے کہ ابو سعید کہتے ہیں، مجھ سے میرے ساتھیوں نے یہ زیادتی بیان کی وَكَمْ اَسْمَعُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ اِبْنُ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْبَاغِيَّةُ۔ ”اور میں نے اسے خود آنحضرت ﷺ سے نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا، ہو کہ اے ابن سمیہ! تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔“

امام بخاری نے اسی قدر الفاظ حدیث پر اختصار فرمایا جس قدر ابو سعید خدری

نے آنحضرت ﷺ سے سنے تھے اور یہی چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ کتنے زیرک تھے اور حدیث کی علتوں پر انہیں کتنا عبور تھا۔<sup>1</sup>

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کے مطابق بات صرف اتنی تھی کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے جب عمار کو دوسرے سب لوگوں سے زیادہ مشقت کرتے پایا اور وہ زیادہ تھکے ماندے معلوم ہوتے تھے تو آپ کی محبت نے جوش مارا اور ازراہ ہمدردی آگے بڑھ کر ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا: اف عمار! تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور بس۔ اس کے آگے ساری بات الحاقی ہے۔

کیونکہ يَدْعُوهُمْ اِلَى السَّجْنَةِ وَيَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ۔ صرف عکرمہ کی روایت میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راوی یہ الفاظ نقل نہیں کرتا اور عکرمہ کا حال اوپر بتایا جا چکا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے حامی دیگر صحابہ کی دعوت جنت اللہ کی طرف نہیں تھی؟ کیا ان کی دعوت قرآن اور اسلام کے مخالف تھی؟ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی عمار کے مخالف تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ اپنے ہر مخالف کو جنت کی طرف بلا تے رہے، کیا ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہنم کی دعوت دیتے رہے۔؟ ”يدعوهم اور يدعونہ

”کے الفاظ ہی اس کے موضوع اور من گھڑت ہونے کی شہادت دے رہے ہیں جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفین کے مقتولین کے بارے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: قَتَلْنَا نَا وَقَتَّلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ۔ 1

”ہمارے مقتولین اور معاویہ کے مقتولین دونوں جنتی ہیں۔“

”امام جعفر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کے متعلق فرمایا کرتے تھے، کہ ہم نے ان سے ان کے کفر کی بنا پر جنگ نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے ہمارے کفر کی وجہ سے ہمارے ساتھ جنگ کی ہم اپنے کو حق پر سمجھتے تھے اور وہ اپنے آپ برحق سمجھتے تھے۔ 2

ان حوالہ جات کی رو سے بھی زیر بحث حدیث کا دوسرا جملہ غلط ثابت ہوتا ہے۔

خناس صاحب کو دعوتِ فکر دیتے ہوئے بتانا چلوں کہ اگر نصِ صریح سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطل ہونا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ثابت ہو گیا تھا، تو آپ نے ان کے ساتھ چھ حکیم کیوں قبول کی، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے نصِ صریح سے حضرت معاویہ کے باغی و باطل ہونے کا ثبوت مل جانے کے بعد ان کو خلافت کیوں سوئی؟ اور ان کی بیعت کیوں کی؟ کیا باغی و باطل ایسے ہی سلوک کا مستحق ہوتا ہے۔

صحیح بخاری کتاب الصلح کی حدیث پاک سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو فتنہ باغیہ کا نہیں فتنہ مسلمہ

1 (مصنف ابن ابی شیبہ: ص ۳۰۳، ج ۱۵) 2 (قرب الاسناد: ص ۵۴، ج ۱)

عظیمہ کا خطاب عطا فرمایا ہے، اگر خناس صاحب کو فتنہ باغیہ کے مصداق نامعظم ہوں تو علامہ محبت الدین الخطیب کی تحقیق پڑھ لیں۔ وہ فرماتے ہیں:

”میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں جو مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مارے گئے ان کے قتل کے ذمے دار قاتلین عثمان ہیں، اس لئے کہ انہوں نے فتنہ کے دروازہ کو کھولا اور اگر حضرت عثمان کے قتل کا سانحہ پیش نہ آتا تو جنگ جمل و صفین وقوع پذیر ہی نہ ہوتی۔“

وسواس الخناس:-

رہا حضرت علی کا امیر معاویہ کے بارے میں کچھ کہنا تو نامور مورخ ابوحنیفہ بینوری نے اپنی کتاب الاخبار الطوال میں حضرت علی کے اس خطبہ کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے صفین کے موقع پر فرمایا تھا:

لوگو! دشمنان قرآن و سنت کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین و انصار کو قتل کیا، یہ وہ ظالم پیشہ اور بدکار لوگ ہیں جن کا اسلام دفع الوقتی کے لئے محض ڈر کی وجہ سے تھا۔“

بیان العرفان:-

خناس کا یہ وسوسہ پڑھنے کے بعد یہی کہا جاسکتا ہے:

”بے حیاباش و ہرچہ خواہی کن“

الاخبار الطوال کے بے سند اور بے ثبوت حوالہ کی روشنی میں خناس کی حواس

باختگی ملاحظہ ہو کہ اس نے حقائق کا کس طرح منہ چڑھایا ہے۔ اگر میرے مولا علی



المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دشمنان قرآن و سنت سمجھتے تو ایسے دشمن قرآن و سنت سے جنگ کیوں روک لی؟ اپنے اور ان کے درمیان حکیم کو کیوں اختیار کیا؟ اپنے اور ان کے مقتولین کو جنتی کیوں قرار دیا؟ (مصنف ابن ابی شیبہ بحوالہ سابق) ان کو اپنا بھائی کیوں قرار دیا؟ ان کا اور اپنا دین ایک کیوں قرار دیا؟ (نہج البلاغہ) امام حسن مجتبیٰ نے خلافت ان کے سپرد کیوں کی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کیوں کی؟ حسین کریمین نے دشمنان قرآن و سنت سے بھاری و طاائف اور ہدایا کیوں قبول کئے؟  
وسواس الخناس:-

مودودی لکھتے ہیں ایک اور نہایت مکروہ بدعت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی پر گالیوں کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور ﷺ کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں۔“  
بیان العرفان:-

مودودی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف دریدہ ذہنی اور ذہنی تعفن میں شیعہ عالیہ کو بھی مات دے گئے ہیں۔ کیا رسول اللہ ﷺ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ برسر منبر گالیاں دیں اور اگر خدا نخواستہ ارباب حکومت سے سیاسی مخالفت میں یہ توقع کر بھی لی جائے تو مدینہ منورہ میں کوئی صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کو منع کرتا یا احتجاج کرتا؟ اگر ایسا واقعہ کہیں موجود ہوتا تو اس کا حوالہ ضرور پیش کیا جاتا، اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ یہودیوں اور سبائیوں کی سازش ہے کہ وہ

صحابہ کرام کے خلاف اس قسم کا زہریلا پراپیگنڈہ کرتے ہیں اور اگر چند تاریخی حوالوں کی بنا پر قرآن و احادیث کے تمام حوالہ جات بالائے طاق رکھ کر ایسی باتیں کہی گئی ہیں تو اس کے مقابلہ میں یہ حوالہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا:

وَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ يَقْنُتُ فَيَقُولُ - اَللّٰهُمَّ اَلْعَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عُمَرَ  
 وَاَبَا الْاَعْوَرَّ وَ حَبِيْبًا وَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ وَ الضُّحَاكَ وَ ابْنَ قَيْسٍ وَ الْوَلَيْدَ  
 فَبَلَغَ ذٰلِكَ وَ مُعَاوِيَةَ فَكَانَ اِذَا قَنَتَ لَعَنَ عَلِيًّا وَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ الْحَسَنَ  
 وَ الْحُسَيْنَ وَ الْاَشْتُرَ۔ 1۔

”اور واقعہ حکیم کے بعد علی جب فجر کی نماز پڑھتے تو قنوت پڑھتے اور کہتے کہ اے اللہ! لعنت کر معاویہ پر، عمر پر، ابوالاعور پر، حبیب پر، عبدالرحمن پر، خالد بن ولید پر، ضحاک بن قیس پر اور ولید پر، پس یہ بات جب معاویہ کو معلوم ہوئی تو وہ بھی قنوت کرتے تو علی، ابن عباس، حسن، حسین اور اشتر پر لعنت کرتے۔“

خناس صاحب زیادہ بہتر یہ ہے کہ تاریخ کے اس بے ثبات کچھرا سے صحابہ کرام کی ذواتِ قدسیہ کو الگ رکھا جائے اور اگر آپ عالی شیعہ راویوں کی روایتوں کا سہارا لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سب و شتم کرنے پر مصر ہی ہوں تو مذکورہ روایت کو پڑھ کر اندازہ کر لیں کہ معاویہ اکیلے ہی سب و شتم نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ سب و شتم اور لعنت کا سلسلہ دونوں طرف سے تھا۔ ہمیں تو تحقیق کے بعد معلوم ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دینے کی بجائے ان کے مقام

عظمت کا اعتراف کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے۔

حافظ ابن کثیر نقل فرماتے ہیں:

لَمَّا جَاءَ خَبْرُ قَتْلِ عَلِيٍّ إِلَى مُعَاوِيَةَ جَعَلَ يَبْكِي فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ  
أَبْكَيهِ وَقَدْ قَتَلْتَهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّكَ لَا تَدْرِينَ مَا فَقَدَ النَّاسُ مِنَ الْفَضْلِ وَالْإِسْلَامِ  
وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ۔ (البداية والنهاية: ج ۸ ص ۱۳۰)

”جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر ملی تو وہ رونے لگے، ان کی اہلیہ نے ان سے کہا، اب آپ ان کو روتے ہیں حالانکہ زندگی میں آپ ان سے لڑ چکے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ آج لوگ کتنے علم و فضل اور فقہ سے محروم ہو گئے ہیں؟ غور فرمائیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی اہلیہ کی گھر کی بات تھی، وہاں بھی اہلیہ نے کہا کہ زندگی میں آپ ان سے لڑتے رہے، یہ نہیں کہا کہ زندگی بھر آپ ان کو گالیاں دیتے رہے۔“

علامہ ابن اثیر جزری علیہ الرحمۃ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری خطبہ نقل کیا ہے: اس میں ان کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں:

لَنْ يَأْتِيَكُمْ مِنْ بَعْدِي إِلَّا مَنْ أَمَّا خَيْرٌ مِنْهُ كَمَا أَنَّ مِنْ قَبْلِي كَانَ خَيْرٌ مِنِّْي۔

”میرے بعد تمہارے پاس جو خلیفہ بھی آئے گا میں اس سے بہتر ہوں گا،

جس طرح مجھ سے پہلے جتنے خلفاء تھے وہ مجھ سے بہتر تھے۔“<sup>۱</sup>

۱۔ (کامل ابن اثیر: ج ۴، ص ۳)

حافظ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی مسائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط و کتابت کے ذریعے معلومات لیا کرتے تھے۔ جب انکی وفات کی خبر پہنچی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

ذَهَبَ الْفِقْهُ وَالْعِلْمُ بِمَوْتِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ 1

”علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے فقہ اور علم رخصت ہو گئے۔“

ان حوالہ جات سے بخوبی واضح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص فضائل کو تسلیم کرتے تھے، تو اس کے بعد کیا کوئی صاحب ایمان و انصاف یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے تھے، یا اس کا گورنروں کو حکم دیتے تھے۔

وسواس الخناس:

اگر معاویہ اتنا ہی صاحب فضیلت ہوتا تو شانِ امامِ حسن میں بیان کی جانے والی صحیح بخاری کی حدیث کا غلط مفہوم پیش کر کے معاویہ کی فضیلت نہ تلاش کی جاتی۔  
بیان العرفان:-

صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی اس طرح ہے۔

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

”اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرا بیٹا حسن سردار ہے شاید

1۔ (الاستیعاب تحت الابہ: ج 3 ص 40)

اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروادے گا۔ ہم نے اس میں کوئی مغالطہ نہیں دیا، بلکہ یہ استدلال کیا تھا اور آج بھی کر رہے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں صلح کرائی اور انہیں خلافت سونپ دی اور ان کی بیعت کر لی، لہذا یہ ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گروہ فئہ عظیمہ مسلمہ ہے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خلافت کا مستحق یقیناً اعلیٰ درجے کا صحابی متقی اور پرہیزگار ہے۔

وسواس الخناس:-

مناظرہ علم منطق کا ایک باب ہے جس میں بحث اور گفتگو کے قوانین بتائے جاتے ہیں اور ان قوانین کی روشنی میں بحث کر کے کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کا نام مناظرہ ہے۔ آج کے مناظر کہلانے والے مجادلہ، مغالطہ، مناظرہ کا فرق نہیں کرتے۔

بیان العرفان:-

ہزار افسوس کہ فریق مخالف مناظرہ کی تعریف کا مطالبہ کرنے کے باوجود خود ہمیں مناظرہ کی تعریف نہ بتا سکا اور آج کافی عرصہ گزرنے کے بعد انکی طرف سے یہ کتابچہ چھپا ہے اور اس میں بھی مناظرہ کی تعریف نہیں لکھ سکا۔ معلوم ہوا کہ یہ جہل مرکب تیاری کر کے تعریف معلوم کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے اور مغالطہ اور مجادلہ والی اصطلاحات پر عمل کر کے اٹھو کہ اور جو کر کا کر رداوا کر رہا ہے۔ حالانکہ مناظرہ کی تعریف یہ ہے:-

”توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیثین اظهاراً للثواب۔“

(مولانا عبدالحمی فرنگی محلی شرح شریفہ)

ترجمہ:- آپس میں مخالف دو فریقوں کا دو چیزوں کے درمیان نسبت کی

طرف بہ نیت ثواب توجہ کرنا۔“

وسواس الخناس:-

ارشاد الساری شرح شریف صحیح بخاری، ج ۱۰ ص ۱۹۸ اس حدیث کی شرح

میں تحویل فرماتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی بادشاہی کو کسی کمی یا

ذلت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ فتنہ اور خون ریزی کو کم کرنے کی خاطر امام نے

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی۔ مولانا مودودی نے خلافت و

ملوکیت کے ص ۱۵۸ پر لکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہر حال خلیفہ ہونا

چاہتے تھے، انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل کی، لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنا یا وہ خود

اپنے زور سے خلیفہ بنے اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے لئے بیعت کے سوا کا

کوئی چارہ کار نہ تھا۔

بیان العرفان:-

خناس صاحب کی سوچ میں واضح تضاد ہے اول سطور میں وہ کہتے ہیں کہ

امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی بادشاہی کسی کمی یا ذلت کی وجہ سے نہیں چھوڑی

اور دوسطربعد ہی مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کی عبارت لکھ دی، معاویہ نے لڑ کر

خلافت حاصل کی اور زور سے خلیفہ بنے اور لوگوں کا بیعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔

جو شخص خواہشِ نفس کا پجاری بن کر ان مسائل میں پڑے گا۔ وہ ایسے ہی تضادات کا شکار ہوگا اگر حق کی پیروی مقصد ہو تو حق بالکل واضح ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے حکم کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی ان کو خلافت دی، ان کی بیعت کی۔ ہمیشہ ان سے عزت و احترام اور محبت و مودت کا رشتہ قائم کیا۔ یہی نہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، بلکہ اپنے ابا جان میرے مولا علی المرتضیٰ کو بھی ہمیشہ لڑائی سے اجتناب اور صلح کی طرف پیش قدمی کا مشورہ عرض کرتے رہے۔

وَقَدْ بَلَغَهُمْ أَنَّ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ دَعَاهُ إِلَى الْعُقُودِ تَتْرُكُ النَّاسَ۔۔ 1

”اور انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حسن بن علی اپنے والد کو رائے دے رہے

ہیں کہ آپ کوئی اقدام نہ کریں اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔“

ابن کثیر نے اس موقع پر حضرت حسن کے الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ان الفاظ

میں آپ نے اپنے والد کو کسی اقدام کے خلاف رائے دی۔

يَا أَبَتِ دَعُ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ سَفْكَ دِمَائِ الْمُسْلِمِينَ وَوُقُوعَ الْإِخْتِلَافِ

بَيْنَهُمْ۔۔ 2

”ابا جان! یہ نہ کیجئے یہ ارادہ ترک کر دیجئے کیونکہ اس میں مسلمانوں کی خون

1. (ابن اثیر: ج ۳، ص ۱۰۳)

2. (البدایہ والنہایہ: ج ۷، ص ۲۵۰، طبع ریاض)

ریزی اور باہم اختلاف انگیزی ہوگی۔“

ابن اثیر ہی میں ایک دوسری جگہ آتا ہے اور طبری اور البدایہ والنہایہ میں بھی ہے کہ اہل شام پر فوج کشی کی تیاری ہو رہی تھی، پتا چلا کہ مکہ مکرمہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سرکردگی اور حضرت زبیر وطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رہنمائی میں ایک فوج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی طرف سے بے اطمینانی کی وجہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکا یک مدینہ سے نکل کر ان لوگوں کو راستے میں روکنے کا فیصلہ کیا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں تھے، لیکن بعد میں پہنچ کر ربذہ کے مقام پر ملے۔ نیز! یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں تھے لہذا وہ ان کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے تھے مگر کچھ خیال آیا تو پیچھے سے چل کر ربذہ پہنچے اور وہی گفتگو پھر کی جس کا اشارہ اوپر کی روایت میں ملتا ہے۔

وَاتَا أَبَاهُ الْحَسَنُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَهُ، لَقَدْ فَعَصَيْتَنِي فَتُقْتَلُ غَدًا بِمَضِيعَةٍ لَا نَا صِرْلَكَ فَقَالَ لَهُ، عَلِيُّ، وَمَا الَّذِي أَمَرْتَنِي فَعَصَيْتَكَ قَالَ أَمَرْتُكَ يَوْمَ أُحِيطَ بِعُثْمَانَ أَنْ تَخْرُجَ عَنِ الْمَدِينَةِ فَيُقْتَلُ وَلَسْتُ بِهَا ثُمَّ أَمَرْتُكَ يَوْمَ قِيلَ أَنْ لَا تُبَايِعَ حَتَّى تَأْتِيكَ وَفُودُ الْعَرَبِ وَبَيْعْتَهُ، أَهْلُ كُلِّ مِصْرَنَا فَإِنْ لَمْ يَقْطَعُوا أَمْرًا دُونَكَ فَأَبَيْتَ عَلِيٌّ وَأَمَرْتُكَ حِينَ خَرَجْتَ الْمَرْثَةَ وَهَذَا أَنْ تَحْلِسَ فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ كَانَ عَلِيٌّ يَدْعُوكَ



فَعَصَيْتَنِي فِي ذَلِكَ كَلْبًا - 1

”آپ کے بیٹے حسن راستے میں آپ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے کچھ آپ سے کہا تھا جو آپ نے نہیں مانا، نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو آپ بے یار و مددگار مارے جائیں گے۔ کہا کہ جس دن حضرت عثمان محصور کئے گئے تھے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مدینے سے باہر چلے جائیں تاکہ آپ کی موجودگی میں کچھ نہ ہو، پھر جب عثمان قتل کر دیے گئے تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ بیعت مت لیجئے، حتیٰ کہ تمام عرب سے وفود آپ کے پاس آئیں اور ہر شہر کے لوگوں کی بیعت آجائے، اس لئے کہ یہ لوگ آپ کے سوا کسی اور کو منتخب کر ہی نہیں سکتے، آپ نے یہ بات بھی نہیں مانی اور پھر جب عائشہ، زبیر اور طلحہ نکلے تو میں نے کہا کہ آپ گھر بیٹھے حتیٰ کہ یہ آمادہ صلح ہو جائیں اور اگر فساد ہوتا ہے تو وہ آپ کے نہیں دوسروں کے ہاتھ سے ہو، مگر آپ نے میری کوئی بات بھی نہیں مانی۔“

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں شہزادہ پاک حسن کا مشورہ صحیح نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے جس بات کو صحیح سمجھا اس پر عمل فرمایا، اور پھر جنگ اور خون ریزی کا ایک طویل سلسلہ چلا جس میں شہزادہ پاک بھی اپنے والد بزرگوار کے دوش بدوش شامل رہے، مگر جب چالیس ہجری میں ایک خارجی کے ہاتھ سے حضرت علی کی شہادت کا سانحہ پیش آیا اور آپ کی جانشینی کا بار حضرت حسن کے کاندھوں پر رکھا گیا تو اس وقت یہ حقیقت بالکل ظاہر تھی کہ مسلمانوں کا بے پناہ نقصان

ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں انتشار، حکم عدولی اور شکست بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔

چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں یہ سعادت آئی کہ ان کی پیش قدمی کی بدولت مسلمانوں کا پانچ سالہ تفرقہ مٹا اور وہ ایک جماعت بن گئے اور اس طرح وہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی جو بخاری کی روایت کے مطابق آنحضرت ﷺ نے آپ کے لئے فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا عالی مقام ہوگا اور اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کا تفرقہ مٹے گا۔

خناس صاحب اور ان کے حواریوں نے صلح کی شرطوں کے بارے میں بھی بہت شور و غوغا کیا۔ چلتے چلتے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ یہ شرطیں کیا تھیں اور کس طرح پوری ہوئیں۔

وَقَدْ صَلَّحَ الْحَسَنُ مُعَاوِيَةَ عَلِيٍّ أَنْ جَعَلَ لَهُ مَا فِي بَيْتِ مَالِهِ وَ  
خِراجِ دَارِ أَبِجَرْدٍ وَعَلِيٌّ أَنْ لَا يُشْتَمَّ عَلِيٌّ وَهُوَ يَسْمَعُ فَأَخَذَ مَا فِي بَيْتِ مَالِهِ  
بِالْكَوْفَةِ وَكَانَ فِيهِ خَمْسَةُ أَلْفٍ ۝ 1

”حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح اس شرط پر کی تھی کہ کوفہ کے بیت المال میں جو کچھ ہے وہ ان کا ہوگا۔ نیز! دارا بگرد کا سارا خراج ان کو ملا کرے گا اور ان کے سامنے حضرت علی پر سب و شتم نہیں ہوا کرے گا۔ پس انہوں نے وہ تمام رقم لے لی جو کوفہ کے بیت المال میں تھی اور وہ

پہنچ کر وڑ تھی۔“

اس عبارت کو پڑھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط بھی پوری نہیں کی۔ دارا بجرد کے خراج والی شرط کے بارے میں ابن اثیر کی تاریخ کامل اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دارا بجرد جس کا تعلق بصرہ کے مرکز سے تھا، اس کے خراج والی شرط پر بصرہ کے لوگ معترض ہوئے کہ یہ خراج تو ہمارا حق ہے جو اور کو کسی صورت نہیں دیا جانا چاہیے۔ ابن اثیر نے بس اتنی ہی بات کرنے پر اکتفا کیا ہے لیکن ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سالانہ چھ ہزار کے بدلے میں ایک ہزار دینار منظور کیا جو حضرت حسن اپنے حسیں حیات دمشق کے سالانہ سفر میں، علاوہ دیگر عطیات کے وصول فرماتے رہے۔<sup>1</sup>

تیسری شرط کے بارے میں شیعہ راویوں نے بہت سے رطب و یا بس کو تاریخ میں بھر دیا ہے، لیکن اہل ایمان و ایقان یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر سال دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے رہے اور لاکھوں، کروڑوں میں ان سے تحائف اور نذرانہ وصول فرماتے رہے۔ حوالہ جات سابق سطور میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گورنر برسر منبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے رہے تو کس طرح متصور ہوگا کہ دونوں شہزادے نو دس سال

1۔ (البدایہ والنہایہ: ج ۸، ص ۵۴)

تک اسے برداشت کرتے رہیں، برابر دمشق جاتے رہیں، تحفے لیتے رہیں، باپ کو گالیاں دینے والے سے انعامات پاتے رہیں۔ (امام حسن تقریباً دس سال اور امام حسین تقریباً بیس (۲۰) سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطیات و تحائف وصول فرماتے رہے یعنی ۴۱ھ سے ۵۰ تک امام حسن اور ۴۱ سے ۶۰ ھ کے آخر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب روایات اور بکواسات شیعہ غالیوں کی کارستانی ہے، ورنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سید عالم ﷺ سے قریبی رشتہ داری کی وجہ سے اور آپ ﷺ کی گہری محبت جو ان کے دل میں موجزن تھی، اہل بیت اطہار سے محبت و شفقت کا رویہ رکھتے تھے۔

جس طرح ان بے سند روایات میں شیعہ غالیوں نے غلو سے کام لیا ہے، عقل سلیم اسے کسی طرح بھی درست تسلیم نہیں کر سکتی کہ مدینہ منورہ میں ہزاروں صحابہ و تابعین کی موجودگی میں مولائے کائنات کو گالیاں بکی جائیں اور صحابہ و اہل بیت، تابعین سب خاموشی سے سنتے رہیں اور اگر کسی نے اس پر احتجاج کیا ہو تو اسے روایات سے کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ اس سلسلہ میں خناس نے جو سنی علماء کے حوالے دیے ہیں، ان سب نے یہی لکھا ہے کہ اگر یہ بات ثبوت کو پہنچ جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی تھیں تو پھر ان پر یہ فتویٰ صادر ہوتا ہے اور ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ مستند اور معتمد ذریعوں سے ایسی خرافات والی روایات ہرگز ثابت نہیں ہو سکتیں، صرف شیعہ غالیوں کی چابکدستی ہے۔

وسواس الخناس :-

معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت لوگوں سے جبراً لی اور جن لوگوں نے انکار کیا تھا، ان کو سزا دی تھی، معاویہ نے امام حسن، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اور عبدالرحمن بن خالد کو زہری تھی۔ یہ سب لوگ معاویہ کی زہر سے وفات پا گئے تھے۔

بیان العرفان :-

یہ بہتان عظیم ہے اور مورخین کی وہ خرافات ہیں جس پر کسی بھی صورت میں اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اتنی عظیم ہستیوں کو اگر زہر دیا جاتا اور ان کا انتقال اس وجہ سے ہوتا تو ان کے ورثاء کا یہ دعویٰ یقیناً تاریخ میں سند کے ساتھ ضرور موجود ہوتا، ورثاء میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان اور سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا دعویٰ تاریخ میں کہیں بھی نہیں مل سکتا، لہذا یہ محض شیعہ غالیوں کی بکواسات ہیں جو اسلام میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کے لئے ایسی سازشیں کرتے ہیں۔

وسواس الخناس نے کتابچہ کے آخر میں اپنی وہی بے سندی اور بے ثبوت روش کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دس الزامات لگانے کی ناکام کوشش کی جبکہ کسی بھی معتمد اور معتبر کتاب کا حوالہ پیش نہیں کیا اور نہ ہی سند سے اس روایت کو ثابت کیا۔

قارئین! آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی بغیر ثبوت کے کسی شخص پر قتل کی ایف آئی آر نہیں کی جاسکتی تو خناس قرن خیر کے ان نفوس قدسیہ کے خلاف

انواہوں کے زور پر، پروپیگنڈہ کے ہتھیار سے صحابہ کرام کے خلاف جھوٹ اور مکر و فریب کا گند پھیلانا چاہتا ہے۔ اس کے جواب میں میں اہل سنت و جماعت کے مستند ذخیرہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتخب فضائل ہدیہ قارئین کرتا ہوں، تاکہ خناس کی ساری نحوست ختم ہو جائے اور ہم پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا فیضان جاری رہے نیز ہمیں بھی ان جیسے اخلاص، لٹہیت، بے نفسی اور تقویٰ کی دولت حاصل ہو جائے۔

## حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دس فضائل

(۱) صحابی رسول ہونا

(۲) رسول اللہ ﷺ کا ان کے لئے دنیا و آخرت میں کامیابی کی دعا کرنا۔

(۳) سمندر کے پہلے جہاد کی فضیلت میں ان کا داخل ہونا۔

(۴) ان کا حضور اقدس ﷺ کی بارگاہ میں کاتب ہونا۔

(۵) رسول اللہ ﷺ کی محبت و عظمت کا ان کے دل میں گھر کر جانا۔

(۶) ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم ﷺ سے قریبی رشتہ داری رکھنا کہ ان کی سگی

بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور ﷺ کی بیوی ہیں اور مومنوں کی ماں

ہیں۔

(۷) صحابہ کرام میں سے فقیہ اور مجتہد ہونا۔

(۸) مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتمد ہونا اور خلفائے

راشدین کے مقدس دور میں بیس سال تک شام کا کامیابی سے گورنر رہنا۔

(۹) قبرص، روڈس، سوڈان پر مشتمل ہزاروں میل کا علاقہ فتح کرنا اور اسلامی ملک میں داخل کرنا۔

(۱۰) پہلا اسلامی بحری بیڑہ تیار کرنا اور کابل بیس سال تک مسلمانوں کے متفقہ امیر کی حیثیت سے پوری اسلامی مملکت پر نہایت عدل سے حکومت کرنا۔

☆ اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ، اللَّهُمَّ ارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا  
وَارْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ، وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى حَبِيْبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ  
وَاصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ۔

تمت بالخیر



## اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم فتویٰ

کیا حکم ہے اہل شریعت مسئلہ میں کہ امامت کس کس شخص کی جائز ہے اور کس کس کی ناجائز اور مکروہ؟ اور سب سے بہتر امامت کس شخص کی ہے؟ بینوا توجرو

### الجواب

جو قرأت غلط پڑھتا ہو جس سے معنی فاسد ہوں، یا وضو یا غسل صحیح نہ کرتا ہو، یا ضروریات دین سے کسی چیز کا منکر ہو، جیسے وہابی، رافضی، غیر مقلد، نیچری، قادیانی، چکڑالوی وغیرہم ان کے پیچھے نماز باطل محض ہے۔

اور جس کی گمراہی حد کفر تک پہنچی ہو، جیسے تفہلیہ کہ مولیٰ علی کو شیخین سے افضل بتاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یا تفسیقیہ کہ بعض صحابہ کرام مثل امیر معاویہ و عمرو بن عاص و ابو موسیٰ اشعری و مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بکراہت شدیدہ تحریمہ مکروہ ہے۔ کہ انہیں امام بنانا حرام، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور جتنی پڑھی ہوں، سب کا پھیرنا واجب۔

اور انہیں کے قریب ہے فاسق معین، مثلاً داڑھی منڈایا خشخاشی رکھنے والا، یا کتروا کر حد شرع سے کم کرنے والا، یا کندھوں سے نیچے عورتوں کے سے بال رکھنے والا، خصوصاً وہ جو چوٹی کندھوائے اور اس میں موباف ڈالے، یا ریشمی کپڑا پہنے یا مغرق ٹوپی یا ساڑھے چار ماشہ سے زائد کی انگٹھی یا کٹی ننگ کی انگٹھی، یا ایک ننگ کی دو انگٹھی اگر چہ مل کر ساڑھے چار ماشہ سے کم وزن کی ہوں، یا سودیا ناچ دیکھنے والا، ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔



اور جو فاسق مععلن نہیں یا قرآن عظیم میں وہ غلطیاں کرتا ہے جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یا نابینا یا جاہل یا غلام یا ولد الزنا یا خوبصورت امر دیا جذامی یا برص والا جس سے لوگ کراہت و نفرت کرتے ہوں اس قسم کے لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے کہ پڑھنی خلاف اولیٰ اور پڑھ لیں تو حرج نہیں۔

اگر یہی قسم اخیر کے لوگ حاضرین میں سب سے زائد مسائل نماز و طہارت کا علم رکھتے ہوں تو انہیں کی امامت اولیٰ ہے۔ بخلاف ان سے پہلی دو قسم والوں سے اگرچہ عالم تبصر ہو وہی حکم کراہت رکھتا ہے۔ مگر جہاں جمعہ یا عیدین ایک ہی جگہ ہوتے ہوں اور ان کا امام بدعتی یا فاسق مععلن ہے اور دوسرا امام نہ مل سکتا ہو، وہاں ان کے پیچھے جمعہ و عیدین پڑھ لیے جائیں۔ بخلاف قسم اول مثل دیوبندی وغیرہ ہم کہ نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کے پیچھے نماز نماز۔ بالفرض وہی جمعہ یا عیدین کا امام ہو اور کوئی مسلمان امامت کے لیے نہ مل سکے تو جمعہ عیدین کا ترک فرض ہے جمعہ کے بدلے ظہر پڑھے اور عیدین کا کچھ عوض نہیں۔ امام اسے کیا جائے جو سنی صحیح العقیدہ، صحیح الطہارت، صحیح القراءة، مسائل نماز و طہارت کا عالم غیر فاسق ہو۔ نہ اس میں کوئی ایسا جسمانی یا روحانی عیب ہو جس سے لوگوں کو تنفر ہو۔

یہی اس مسئلہ کا اجمالی جواب اور تفصیل موجب تطویل و اطناہ۔ 1

والله تعالى اعلم بالصواب

عبدہ المذنب احمد رضا عثمی عنہ

1۔ احکام شریعت مسئلہ 21:52 محرم الحرام 1339ھ

یہ خونِ شبلیہ کا اثر ہے کہ تنہا ظلمت کی وادیوں میں  
 علی کا بیٹا خطیب عرفانِ رضا کے نغمے سُنا رہا ہے  
 (نخضر)

اہل باطل لہرزہ برانداز ہیں اے شیرِ حقی  
 آپ کی تنظیم سے تحریر سے تقریر سے

مُجدد الف ثانی کانفرنس منعقدہ ۳ مارچ ۲۰۰۵ء لاہور میں تالیشِ قہوی صاحب نے حضرت گنجِ عرفان کی خدمت میں پیش کیا

قاری حافظ محمد عرفان شاہ  
 خوب خوب رُوب سفیرِ رضا  
 علم دیں اور عمل میں ہو بے نظیر  
 ہے دُعا رحمانی کہ شام و پگاہ

مولانا طالب حسین حشتی نے یہ اشعار طغریٰ مرصع کی صورت میں ۱۹۷۱ء میں حضرت گنجِ عرفان کی نذر کیے

165/E بلاک  
 سبزہ زار لاہور

دَارُ الْعُرْفَانِ